

ماہنامہ اشاعتِ اہلسنت

مفت سلسلہ اشاعت ۹۹

سرکارِ اہلِ حق و عزتِ امامِ حسینؑ کی شہادت
کے سلسلے میں مستند خطابت پر مشتمل ایک نایاب تحریر

آیۃ قیامت

حسن رضا خان برکاتی
مفت محمد امجد علی

ناشر

جمعیتِ اشاعتِ اہلسنت پاکستان

نور مسجد کائنات بیابانِ اہلِ حق

آئینہ قیامت

حسن رضا خان برکاتی علیہ الرحمہ

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار، کراچی۔ 74000 فون: 2439799

تصانیف حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ

- (۱) ذوقِ نعت (نعتیہ کلام) (۲) ثمرۂ فصاحت (۳) دینِ حسین
(۴) انتخابِ شہادت مع آمینہ قیامت (۵) مصمصامِ حسین برادرِ فتن
(۶) ساغرِ پرکیف (۷) نگارستانِ لطافت

نمبر شمار	فہرست	صفحہ نمبر
1	عرض ناشر.....	5
2	حبیب خدا علیہ السلام کی بارگاہ میں فضل شہادت کی حاضری.....	7
3	فضائل امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما.....	7
4	محبوبان بارگاہ الہی اور قانون قدرت.....	9
5	سرکار علیہ السلام اور خاندان رسالت کا کفر اختیار.....	9
6	اللہ عزوجل کے حقیقی دوست.....	12
7	یزید پلید کی تخت نشینی اور قیامت کے سامان.....	13
8	امام حسن (رضی اللہ عنہ) کی شہادت اور بھائی کو نصیحت.....	14
9	امام حسین (رضی اللہ عنہ) کی شہادت کی خبر واقعہ کربلا سے پہلے ہی مشہور تھی.....	15
10	یزید کا بیٹا مسلم بن الحجاج (رضی اللہ عنہ) کی مدینے سے روانگی.....	16
11	کوفیوں کی طرف سے فریاد، جھوٹے وعدے اور امام مسلم کی شہادت.....	22
12	امام جنت (رضی اللہ عنہ) کی میدان کربلا کی جانب روانگی.....	25
13	لکن زیاد کی جانب سے ناقہ بندی.....	29
14	زہیر بن قیس جلی (رضی اللہ عنہ) کی معیت.....	30
15	امام مسلم (رضی اللہ عنہ) کی شہادت کی خبر.....	31
16	حضرت حر کی آمد.....	32
17	کوفیوں کی بے وفائی اور قیس بن مسر کی شہادت کی خبر.....	34
18	امام عالی مقام (رضی اللہ عنہ) کا خواب دیکھنا.....	35
19	لکن زیاد کی طرف سے امام عرش مقام پر تخی کا حکم.....	36

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ

نام کتاب : آئینہ قیامت
از قلم : حضرت مولانا حسن رضا خان برکاتی علیہ الرحمہ
ضخامت : ۸۰ صفحات
تعداد : ۲۰۰۰
مفت سلسلہ اشاعت : ۹۹
اشاعت : محرم الحرام ۱۴۲۳ھ، مارچ ۲۰۰۲ء

ابتدائیہ

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین
جمعیت اشاعت الہدایت پاکستان اپنے مفت سلسلہ اشاعت کی ۹۹ ویں کڑی کے طور پر شہنشاہ
محن مولانا حسن رضا خاں بریلوی علیہ الرحمہ (صاحب ذوق نعت) کی تالیف مقدسہ "آئینہ قیامت"
شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہے یہ کتاب جہاں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے
فضائل و مناقب شہدائے کربلا کے مراتب، معرکہ کربلا کے سلسلہ واردات، امام عالی مقام رضی اللہ
عنہ کی شہادت اور شہادت کے بعد کے واقعات کا ایک مستند و مدلل بیان ہے۔ وہاں اردو و نثر کا ایک حسین
شائبہ کار بھی ہے۔

عرصہ دراز سے یہ کتاب منظر عام سے پردہ فرماتی جسے حال ہی میں مکتبہ اعلیٰ حضرت (رضی اللہ عنہ)
نے تسہیل اور ترتیب نو کے ساتھ نئی کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ شائع کیا ہے جمعیت اشاعت الہدایت پاکستان
اس موقع پر جناب محمد ارجل عطاری صاحب (مکتبہ اعلیٰ حضرت) کی نہایت مشکور ہے جنہوں نے جمعیت ہذا
کو اس کتاب کی مفت اشاعت کے لئے کمپیوٹر کمپوزنگ استعمال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کو نافع ہر خاص و عام بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ

فقط

محمد تالش اختر

(انچارج شعبہ نشر و اشاعت)

20	نواسہ رسول (رضی اللہ عنہ) کی شب میں روانگی.....	36
21	میدان کربلا میں آمد.....	37
22	امام مظلوم پر پانی بند ہونا.....	38
23	انہی سعد کی طرف سے انہی زیادہ کو مصلحت آمیز خط اور شمر کا امام کے خلاف درغلانا.....	39
24	شمر کی انہی سعد کے پاس آمد.....	40
25	محرم الحرام اور خواب میں جد کریم ﷺ کی تشریف آوری	40
26	لحضر امام عالی مقام کی طرف سے مقابلے کی تیاری.....	41
27	اب قیامت قائم ہوتی ہے.....	43
28	دس محرم الحرام اور خاندان رسالت پر ظلم و ستم کا آغاز.....	46
29	حضرت محمّد کی امام عالی مقام (رضی اللہ عنہ) سے معذرت.....	49
30	مقابلے کا باقاعدہ آغاز.....	51
31	تین رسالت کے مسکتے پھولوں کی شہادت کی ابتداء.....	58
32	امام عالی مقام (رضی اللہ عنہ) شہید ہوتے ہیں.....	60
33	جگر گوشہ رسول ﷺ کی پر سوز شہادت.....	64
34	شہادت کے بعد کے واقعات.....	70
35	سر انور کی کرامات.....	73
36	مزید واقعات.....	74
37	قتل حسین (رضی اللہ عنہ) میں شریک بد مخوں کا انجام.....	75
38	امام حسن کو زہر کس نے دیا؟.....	77

پیش لفظ

فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا خلیل الرحمن چشتی مدظلہ العالی

نواسہ رسول شہید کربا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ تاریخ کا ایک ایسا دردناک اور اندوہ گیس سانحہ ہے جو اپنی حیثیت کے لحاظ سے منفرد ہے اس کی عظمت آج بھی اسی طرح ہے جس طرح صدیوں پہلے تھی اس طویل عرصے میں کتنی سلطنتیں تباہ ہوئیں، قوتیں نیست و نابود ہوئیں، نظام بدلے، حکمران بدلے، دنیا بدلی لیکن شہادت امام حسین کا انقلاب انگیز اور فکر انگیز واقعہ جس قدر قدیم ہوتا جا رہا ہے اسی قدر اسکی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔

محرم کا چاند دیکھتے ہی انسان ماضی کی تصویر میں گم ہو جاتا ہے۔ جہاں ایک تپتے صحراء میں نواسہ رسول جگر گوشہ بتول چند جانثاروں کے ساتھ باطل کے سامنے برسرِ پیکار ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور اہل بیت پر ڈھائے گئے مظالم انسانی روح کو تڑپا جاتے ہیں اور آنکھوں کے آنسو رونے لگتی ہے اور جس دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اسکی آنکھ اٹھ بار ہو جاتی ہے۔

ہم اپنے اسلاف کی یاد مناتے ہیں ان کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں انکے کارناموں اور قربانیوں کی تحیر کرتے ہیں۔ قصہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصول وہ چھوڑ گئے ہیں ان کو اپنا کر ہم اپنی اصلاح کریں۔

زیر نظر کتاب آئینہ قیامت اسی سلسلے کی کڑی ہے جسے اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے۔ اس کتاب میں شہادت امام حسین کی نسبت صرف سچے حالات واقعات کو مستند روایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس سے قبل بھی منظر عام پر آ چکی ہے ایک بار پھر جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کی سعی و کوشش سے مفت سلسلہ اشاعت کیلئے شائع کیا جا رہا ہے۔

جمعیت اشاعت اہلسنت مسلک اہلسنت کا ایک اشاعتی و تبلیغی ادارہ ہے جو عوام الناس تک بالعموم اور علماء و تک بالخصوص تبلیغی، فکری، مسلکی اور علمی مواد پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان کو مزید اخلاص و اہمیت و اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین

والسلام

خلیل الرحمن چشتی عفی عنہ
دارالعلوم غوثیہ محمدیہ غوثیہ، سائٹ کراچی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا
ومولانا محمد والہ واصحابہ اجمعین

حبيب خدا (ﷺ) کی بارگاہ میں فضل شہادت کی حاضری ﴿﴾

ہمارے حضور پر نور و سرور عالم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات و صفات کا مجمع خلق فرمایا۔ حضور ﷺ کے سے اوصاف حمیدہ و خصائل پسندیدہ، کسی ملک، کسی بشر، کسی رسول، کسی پیغمبر میں ممکن نہیں۔ مگر ظاہر، صرف فضل شہادت، اس بارگاہ عرش اشعہ کی حاضری سے محروم رہا۔ اس کی نسبت علمائے کرام کا خیال ہے، اور کتابتیں خیال ہے کہ جنگ احد شریف میں اس روح مصور، جان مجسم ﷺ کا ندان مبارک شہید ہونا سب شہیدوں کی شہادت سے افضل ہے۔ اور جس وقت حضور پر نور ﷺ کا تعلق خاطر شہزادوں کے خیال میں آتا ہے، تو اس امر کے اظہار میں کچھ بھی تامل نہیں رہتا کہ ان حضرات کی شہادت، حضور ہی کی شہادت ہے اور انہوں نے نیابت اس شرف کو سرسبزی و سرخرو کی عطا فرمائی۔

فصل الامام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ﴿﴾

ایک بار حضرت امام حسن (رضی اللہ عنہ) حاضر خدمت اندس ہو کر حضور پر نور ﷺ کے شاہ مبارک پر سوار ہو گئے، ایک صاحب نے عرض کیا ”صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے۔“ حضور نے فرمایا ”اور سوار کیسا اچھا سوار ہے۔“

﴿مشکوۃ المصابیح باب مناقب اہل النبی ﷺ ورضی اللہ عنہ﴾

(ایک مرتبہ) حضور پر نور ﷺ سجدے میں تھے کہ امام حسن (رضی اللہ عنہ) پشت مبارک سے لپٹ گئے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سجدے کو طول دیا کہ کہیں

سراٹھانے سے گرنہ جائیں۔ ﴿تاریخ الخلفاء﴾

امام حسن اور امام حسین (رضی اللہ عنہما) کی نسبت ارشاد ہوتا ہے کہ ”ہمارے یہ دو بیٹے جو انان جنت کے سردار ہیں۔“

﴿مشکوٰۃ المصابیح باب مناقب اہل النبی ﷺ ورضی اللہ عنہ﴾

اور فرمایا جاتا ہے ”ان کا دوست ہمارا دوست اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔“

﴿سنن ابن ماجہ باب فضائل الحسن والحسين﴾

اور فرماتے ہیں ﷺ ”حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے، حسین سب سے اسطاف ہے۔“

﴿مشکوٰۃ المصابیح باب مناقب اہل النبی ﷺ ورضی اللہ عنہ﴾

ایک روز حضور پر نور ﷺ کے دہنے زانو پر امام حسین اور بائیں پر حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیٹھے تھے، حضرت جبریل نے حاضر ہو کر عرض کی کہ ”ان دونوں کو خدا تعالیٰ حضور کے پاس نہ رکھے گا“ ایک کو اختیار فرمالیجئے۔“ حضور نے امام حسین (رضی اللہ عنہ) کی جدائی گوارہ نہ فرمائی، تین دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد امام حسین جب حاضر ہوتے، آپ سے لیے اور فرماتے ”مَرْحَبًا بِمَنْ قَدِيتُهُ بِأَبْنِي“ ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔“

اور فرماتے ہیں ﷺ ”یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی! میں ان کو دوست رکھتا ہوں تو بھی ان کو دوست رکھ اور اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے۔“ ﴿مشکوٰۃ المصابیح باب مناقب اہل النبی ﷺ ورضی اللہ عنہ﴾

مول زہرا (رضی اللہ عنہا) سے فرماتے ”میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ پھر دونوں کو سوچتے اور سیدہ انور سے لگا لیتے۔“

﴿مشکوٰۃ المصابیح باب مناقب اہل النبی ﷺ ورضی اللہ عنہ﴾

﴿محبوبانِ بارگاہِ الہی اور قانونِ قدرت﴾

جب حضور پر نور ﷺ کے یہ ارشاد اور شہزادوں کی ایسی پاسداریاں، ناز و داریاں یاد آتی ہیں اور واقعاتِ شہادت پر نظر جاتی ہے تو حسرت بھری آنکھوں سے آنسو نہیں، لہو کی بوندیں ٹپکتی ہیں اور خدا کی بے نیازی کا عالم آنکھوں کے سامنے چھا جاتا ہے، یہ مقدس صورتیں خدا کی دوست ہیں اور اللہ جل جلالہ کی عادتِ کریمہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے دوستوں کو بلاؤں میں گھیرے رکھتا ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ”میں حضور ﷺ سے محبت رکھتا ہوں۔“ فرمایا ”نفر کے لئے مستعد ہو جا۔“ عرض کیا ”اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہوں۔“ ارشاد ہوا ”بلا کے لئے آمادہ ہو جا۔“

اور فرماتے ہیں ”سخت ترین بلا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ہے، پھر جو بہتر ہیں پھر جو بہتر ہیں۔“

ع۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے	ع۔ نزدیکانِ رابیش بود حیرانی
---	------------------------------

﴿سرکار اور خاندانِ سرکار ﷺ کا فقرِ اختیاری﴾

ہمارے حضور انور ﷺ کو خدا تعالیٰ نے اشرف ترین مخلوق بنایا اور محبوبیتِ خاص کا خلعتِ فاخرہ عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے دنیا کی جو بلائیں آپ نے اٹھائیں اور جو مصیبتیں آپ نے برداشت کیں کسی میں ان کا تحمل ممکن نہیں۔ اللہ اللہ محبوبیت کی تو وہ ادائیں کہ فرمایا جاتا ہے،

”لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا اے محبوب! میں اگر تم کو پیدا نہ کرتا تو دنیا ہی کو نہ

بناتا۔“

علو مرتبت کی وہ کیفیتیں کہ اپنے خزانے کی کنجیاں دے کر مختار کل بنادیا جو چاہو کرو، سیاہ و سپید کا تمہیں اختیار ہے۔

ایسے بادشاہ جن کے مقدس سر پر دونوں عالم کی حکومت کا چمکتا ہوا تاج رکھا گیا، ایسے رفعت پناہ، جن کے مبارک پاؤں کے نیچے تحت الٰہی بچھایا گیا، شاہی لشکر کے فقیر، سلاطین عالم، سلطانی باڑے محتاج شاہان عالم دنیا کی نعمتیں بانٹنے والے، زمانے کی دولتیں دینے والے بھکاریوں کی جھولیاں بھریں، منہ مانگی مرادیں پوری کریں۔ اب کاشاہ اقدس اور دولت سرائے مقدس کی طرف نگاہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ ایسے جلیل القدر بادشاہ جن کی قاہر حکومت، مشرق و مغرب کو گھیر چکی اور جن کا لاکھا ملت آسمان و تمام روئے زمین میں ج رہا ہے، ان کے برگزیدہ گھر میں آسائش کی کوئی چیز نہیں، آرام کے اسباب تو درکنار خشک روٹی کھجوریں اور جو کے بے چنے آلے کی روٹی بھی تمام عمر بیٹ بھر نہ کھائی،

کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا
اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام

(حدائقِ عشق)

شاہی لباس دیکھئے تو سترہ سترہ پیوند لگے ہیں، وہ بھی ایک کپڑے کے نہیں۔ دو دو مہینے سلطانی باورچی خانے سے دھواں بلند نہیں ہوتا۔ دینیو عیش کی تویہ کیفیت ہے، دینی وجاہت دیکھئے تو اس عمامے والے تاجدار کی شوکت اور اس سادگی پسند کی وجاہت سے دونوں عالم گونج رہے ہیں،

مالک کو نین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

(حدائقِ عشق)

یہاں یہ امر بھی بیان کر دینے کے قابل ہے کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں محض اپنی خوشی سے اٹھائی گئیں، اس میں مجبوری کو ہرگز دخل نہیں تھا۔ ایک بار آپ کے بھتی خواہ اور رضا جو دوست جل جلالہ نے پیغام بھیجا کہ ”تم کو تو مکہ کے دو پہاڑوں کو (جنہیں اخشیس کہتے ہیں) سونے کا بنا دوں کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہیں؟“ عرض کی ”یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن دے کہ شکر جلالوں، ایک دن بھوکا رکھ کہ صبر کروں۔“

مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور علیہ السلام کو نفسِ مطمئنہ عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ عیش و عشرت میں بسر فرماتے اور آسائش و راحت محبوب رکھتے، تو آپ کا یہ وردگار آپ کی خوشی پر خوش ہونے والا دنیا میں جنتوں کو اتار کر رکھ دیتا، اور یہ سامان عیش آپ کے برگزیدہ اور پاکیزہ نفس میں ہرگز تغیر پیدا نہ کر سکتا، ایسی حالت میں یہ بلا پسندی اور مصیبت دوستی اسی جیاد پر ہو سکتی ہے کہ آپ رحمۃ اللعالمین ٹھہرے، دنیا کی ہر چیز کے حق میں رمت ہو کر آئے، اگر آپ عیش و عشرت میں مشغول رہے ہوتے تو ”تکلیف و مصیبت“ (کہ) جن سے عاقبت میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کو بھی سرد کار نہ ہو گا، برکات سے محروم رہ جاتیں۔

ایک بار حضور ﷺ مسلمانوں کو کنیزیں اور غلام تقسیم فرما رہے تھے، مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے حضرت مول زہرا (رضی اللہ عنہا) سے کہا ”جاؤ! تم بھی اپنے لئے کوئی کنیز لے آؤ۔“ حاضر ہوئیں اور ہاتھ دکھا کر عرض کرنے لگیں کہ ”چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں ایک کنیز مجھے بھی عنایت ہو۔“ ارشاد ہوا ”اے فاطمہ! میں تجھے ایسی چیز بتاتا ہوں جو کنیز و غلام سے زیادہ کام دے، ثورات کو سوتے وقت

سبحان اللہ ۳۳ بار، الحمد للہ ۳۳ بار، اللہ اکبر ۳۴ بار پڑھ کر سو رہا کر۔ ﴿مشکوٰۃ المصابیح﴾
 ایک بار حضور پر نور ﷺ حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کے کاشانہ اقدس میں
 تشریف لے گئے، دروازہ تک رونق افروز ہوئے تھے کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں
 میں چاندی کی ایک ایک چوڑی ملاحظہ فرمائی، واپس تشریف لے آئے، حضرت رسول
 (رضی اللہ عنہ) نے وہ چوڑیاں حاضر کر دیں کہ انہیں تصدق کر دیجئے، مساکین کو عطا فرما
 دی گئیں اور دو چوڑیاں عاج یعنی ہاتھی دانت کی مرحمت ہوئیں اور ارشاد ہوا، ”فاطمہ!
 دنیا، محمد اور آل محمد کے لائق نہیں۔“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم
 عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) حاضر آئے، دیکھا کہ کھجور کی چٹائی پر آپ ﷺ آرام
 فرما رہے ہیں، اور اس نازک جسم اور نازنین بدن پر یورپ کے نشان من رہے ہیں
 ، یہ حالت دیکھ کر بے اختیار رونے لگے اور عرض کی کہ ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
 قیصر و کسریٰ، خدا کے دشمن، ناز و نعمت میں بسر کریں اور خدا کا محبوب تکلیف و مصیبت
 میں؟“ ارشاد ہوا ”کیا تو اس امر پر راضی نہیں کہ انہیں دنیا کے عیش ملیں اور تو عقی
 کی خوبیوں سے بہرہ ور ہو؟“ ﴿مشکوٰۃ المصابیح﴾

﴿اللہ عزوجل کے حقیقی دوست﴾

حضرت سری سقطی سے بذریعہ الہام فرمایا گیا ”اے سری! میں نے مخلوق پیدا
 فرما کر اس سے پوچھا، ”کیا تم مجھ کو دوست رکھتے ہو؟“ سب نے بالاتفاق عرض کی کہ
 ”تیرے سوا اور کون ہے جسے ہم دوست رکھیں گے؟“ پھر میں نے دنیا مائیٰ نوہ حصے
 اس کی طرف ہو گئے، ایک حصہ نے کہا ”ہم اس کی خاطر تجھ سے جدائی نہ کریں گے،“
 پھر آخرت خلق فرمائی اس ایک حصہ سے نوہ حصے اس کے خریدار ہو گئے، باقیوں نے
 عرض کی ”ہم دنیا کے سائل نہ آخرت پر مائل، ہم تو تیرے چاہنے والے ہیں۔“

پھر بلائیں پیش کیں ان میں سے بھی نوہ حصے گھبرا کر الگ ہو گئے، ایک حصہ نے عرض
 کی ”تو زمین اور آسمان کے چودہ طبق کو بلا کا طوق بنا کر ہمارے گلے میں ڈال دے، مگر ہم
 تیری طرف سے منہ پھرنے والے نہیں۔“ ان کی نسبت ارشاد ہوا ”أُولَئِكَ أَوْلِيَائِي
 حَقًّا۔ یہ میرے سچے دوست ہیں۔“

”اب الہیبت کی بلا پسندی حیرت کی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہے۔“

حضرت ابوذر (رضی اللہ عنہ) سے بلا و نعمت کے بارے میں سوال ہوا، فرمایا ہمارے

نزدیک دونوں برابر ہیں یعنی

آنچه از دوست می رسد نیکوست

امام حسن (رضی اللہ عنہ) کو خبر ہوئی، ارشاد ہوا، ”اللہ تعالیٰ ابوذر پر رحم کرے مگر ہم
 الہیبت کے نزدیک بلا، نعمت سے افضل ہے کہ نعمت میں نفس کا بھی حظ (یعنی
 حصہ) ہے اور بلا محض رخصائے دوست ہے۔“

اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی الہ واصحابہ اجمعین

﴿یزید پلیدی کی تخت نشینی اور قیامت کے سامان﴾

ہجرت کا ساٹھواں سال اور رجب کا مہینہ کچھ ایسا دل دکھانے والا اپنے ساتھ
 لایا، جس کا نظارہ اسلامی دنیا کی آنکھوں کو ناچار اس کی طرف کھینچتا ہے، جہاں کلیجہ نوچنے
 والی آفتوں، بے چین کر دینے والی تکلیفوں نے دیندار دلوں کے بے قرار کرنے
 اور خدا پرست طبیعتوں کو بے تاب کرنے کے لئے حسرت و بے کسی کا سامان جمع کیا
 ہے۔ یزید پلیدی کا تخت سلطنت کو اپنے ناپاک قدم سے گندہ کرنا، ان با قابل برداشت
 مصیبتوں کی تمہید ہے جن کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ لو آتا اور دل ایک غیر معمولی
 بے قراری کے ساتھ پہلو میں پھڑک جاتا ہے۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی

مضبوطی، اپنی ذلیل عزت کی ترقی، اس امر پر منحصر سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس وبے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار رنگے۔ اس جہنمی کی نیت بدلتے ہی زمانے کی ہوائے پلٹے کھائے اور زہریلے جھونکے آئے کہ جاودان بہاروں کے پاک گریباں وبے خزاں پھولوں، نوشگفتہ گلوں کے غم میں چاک ہوئے، مصطفیٰ ﷺ کی ہری بھری لہلاقی پھلوری کے سہانے نازک پھول مرجھامرجھا کر طرازدامن خاک ہوئے۔

امام حسن (رضی اللہ عنہ) کی شہادت اور بھائی کو نصیحت

جب کسی بدعت نے امام حسن (رضی اللہ عنہ) کو زہر دینے کی سنگین جرأت کا ارتکاب کیا تو اس بے ہمین کر دینے والی خبر کو سن کر حضرت امام حسین (رضی اللہ عنہ) اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے۔ سرہانے بیٹھ کر گزارش کی ”حضرت کو کس نے زہر دیا؟“ فرمایا ”اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اگر نہیں، تو میں بے گناہ سے عوض نہیں چاہتا۔“

ایک روایت میں ہے فرمایا ”بھائی لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر کام آئیں نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کو کام میں لائیں۔“ ۱۔

واہ کیا حلم ہے اپنا تو جگر ٹکڑے ہوا

پھر بھی ایذائے ستم گر کے روادار نہیں

پھر جانے والے امام نے آنے والے امام کو یوں وصیت فرمائی، ”حسین

۱۔ بعض مؤرخین کے نزدیک ”آپ کو زہر دینے کی ناپاک حرکت کا ارتکاب آپ کی زوجہ جعدہ نے یزید کے درغلانے پر دیا۔“ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اس کے لئے اسی کتاب کے (77) صفحے پر ادارے کی طرف سے زیادہ سے ہوئے چند کلمات کا مطالعہ ضرور فرمائیے۔

دیکھو مسیفہا بن کوفہ سے ڈرتے رہنا، مبادا وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلائیں اور وقت پر چھوڑ دیں، پھر پچھتاؤ گے اور بچاؤ کا وقت گزر جائے گا۔“

بے شک امام عالی مقام کی یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھ لینے کے لائق تھی، مگر اس ہونے والے واقعے کو کون روک سکتا (تھا)؟ جسے قدرت نے مدتوں پہلے مشور کر رکھا تھا۔

امام حسین کی شہادت کی خبر واقعہ کربلا سے پہلے ہی مشہور تھی

حضور سرور عالم ﷺ کی بعثت شریفہ سے تین سو برس پیش تریہ شعرا ایک شعر پر لکھا ہوا ملا،

اَتْرَجُوْا اُمَّةً قَتَلْتَ حُسَيْنًا

شَفَاعَةُ جَدِّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ

کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت اس کے نانا جان ﷺ کی شفاعت پائیں گے؟

یہی شعر ارباب روم کے مگر جاگھر میں لکھا پایا گیا اور لکھنے والا معلوم نہ ہوا۔ کئی حدیثوں میں ہے، حضور سرور عالم ﷺ ام المومنین حضرت ام سلمہ (رضی اللہ عنہا) کے کاشانہ میں تشریف فرما تھے، ایک فرشتہ کہ پہلے کبھی حاضر خدمت نہ ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاضری کی اجازت لے کر آستان بوس ہوا، حضور پر نور ﷺ نے ام المومنین سے ارشاد فرمایا، دروازے کی نمکبانی رکھو، کوئی آنے نہ پائے، اتنے میں سیدنا امام حسین علیہ السلام دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور گود کر حضور پر نور ﷺ کی گود میں جا بیٹھے، حضور پیار فرمانے لگے، فرشتے نے عرض کی ”حضور انہیں چاہتے ہیں؟“ فرمایا ”ہاں!“ عرض کی ”وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت

انہیں شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو میں وہ زمین حضور کو دکھا دوں، جہاں یہ شہید کئے جائیں گے۔“ پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں ہے ریت، ایک میں ہے کنکریاں، حاضر کیں حضور علیہ السلام نے سو نگہ کر فرمایا ”رَبِّحْ كَرْبُ وَتَلَاءُ“ بے چینی اور بلا کی ہو آتی ہے، پھر ام المؤمنین کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد ہوا، ”جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہوا، انہوں نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ چھوڑی۔“ ام المؤمنین فرماتی ہیں، ”میں کہا کرتی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہو گا۔“

امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ مصطفیٰ کو جاتے ہوئے زمین کربلا سے گزرے، نام پوچھا لوگوں نے کہا ”کربلا“ یہاں تک روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، پھر فرمایا میں خدمت اقدس حضور سید عالم ﷺ میں حاضر ہوا، حضور کو روتا ہوا پایا، سب پوچھا، فرمایا کہ ”ابھی جبریل کہہ کر گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین، فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا، پھر جبریل نے وہاں کی مٹی مجھے سو نگھائی مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں بہہ نکلیں۔“

ایک روایت میں ہے، مولیٰ علی اس مقام سے گزرے جہاں اب امام مظلوم کی قبر مبارک ہے، فرمایا یہاں ان کی سواری بٹھائی جائے گی، یہاں ان کے کپارے رکھے جائیں گے، اور یہاں ان کے خون گریں گے، آل محمد ﷺ کے کچھ نوجوان اس میدان میں قتل ہوں گے جن پر زمین و آسمان رونیں گے۔

اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی الہ واصحابہ اجمعین

یزید کا پیغام بیعت اور امام حسین (رضی اللہ عنہ) کی مدینے سے روانگی

جب امام حسن (رضی اللہ عنہ) مرتبہ شہادت پا کر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب یزید پلید شقی کو امام حسین یاد آئے، مدینہ کے صوبہ دار ولید کو خط لکھا کہ

”حسین اور عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن زبیر سے بیعت کے لئے کہے اور مہلت نہ دے۔“ لکن عمر ایک مسجد میں بیٹھنے والے آدمی ہیں اور ابن زبیر جب تک موقع نہ پائیں گے خاموش رہیں گے، ہاں حسین سے بیعت لینی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ شیر اور شیر کا بیٹا موقع کا انتظار نہ کرے گا۔“

صوبہ دار نے خط پڑھ کر پیامی بھیجا، امام نے فرمایا ”چلو آتے ہیں۔“ پھر عبد اللہ بن زبیر (رضی اللہ عنہ) سے فرمایا ”دربار کا وقت نہیں ہے، بے وقت بلانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سردار نے وفات پائی، ہمیں اس لئے بلایا جاتا ہے کہ موت کی خبر مشہور ہونے سے پہلے یزید کی بیعت ہم سے لی جائے۔“ لکن زبیر (رضی اللہ عنہ) نے عرض کی ”میرا بھی یہی خیال ہے ایسی حالت میں آپ کی کیا رائے ہے؟“ فرمایا ”میں اپنے جوان جمع کر کے جاتا ہوں، ساتھیوں کو دروازے پر بٹھا کر اس کے پاس چلا جاؤں گا۔“ لکن زبیر نے کہا ”مجھے اس کی جانب سے اندیشہ ہے۔“ فرمایا ”وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا۔“ پھر اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے، ہمراہیوں کو ہدایت کی ”جب میں بلاؤں یا میری آواز بلند ہوتے سنو، اندر چلے آنا اور جب تک میں واپس نہ آؤں، مل کر نہ جانا۔“ یہ فرما کر اندر تشریف لے گئے، ولید کے پاس مردان کو بٹھایا، سلام علیک کر کے تشریف رکھی، ولید نے خط پڑھ کر سنایا وہی مشہور پایا جو حضور کے خیال شریف میں آیا تھا۔ بیعت کا حال سن کر ارشاد ہوا ”مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو، پھر ہم سے کہو۔“ ولید نے بٹتر خافیت پسندی عرض کی، ”بہتر تشریف لے جائیے۔“ مردان بولا ”اگر اس وقت انہیں چھوڑ دے گا اور بیعت نہ لے گا تو جب تک بہت سی جانوں کا خون نہ ہو جائے، ایساقت ہاتھ نہ آئے گا، ابھی روک لے بیعت کر لیں تو خیر ورنہ گردن مار دے۔“ یہ سن کر امام نے فرمایا ”لکن الزر قاتلوا یادہ، کیا مجھے قتل

کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم، تُو نے جھوٹ کہا اور پاجی پن کی بات کی۔“ یہ فرما کر واپس تشریف لے آئے۔

مروان نے ولید سے کہا، ”خدا کی قسم اب ایسا موقع نہ ملے گا۔“ ولید بولا ”مجھے پسند نہیں کہ بیعت نہ کرنے پر حسین کو قتل کر دوں، مجھے تمام جہاں کے ملک و مال کے بدلے میں بھی حسین کا قتل منظور نہیں، میرے نزدیک حسین کے خون کا جس شخص سے مطالبہ ہو گا وہ قیامت کے دن خدائے قہار کے سامنے ہلکی تول والا ہے۔“ مروان نے منافقانہ طور پر کہہ دیا ”تُو نے ٹھیک کہا۔“

(کچھ دیر بعد) امام حسین (رضی اللہ عنہ) کے پاس دوبارہ آدمی آیا، فرمایا ”صبح ہونے دو۔“ اور قصد فرمایا کہ رات میں مکہ کے ارادے سے مع اللہ و عیال سفر فرمایا جائے گا۔ یہ رات امام عالی مقام نے اپنے جدِ کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے روضہ منورہ میں گزاری کہ آخر تو فراق کی ٹھہرتی ہے، چلتے وقت تو اپنے جدِ کریم ﷺ کی مقدس گود میں لپٹ لیں پھر خدا جانے زندگی میں ایسا وقت ملے یا نہ ملے۔ امام آرام میں تھے کہ خواب دیکھا، حضور پر نور تشریف لائے ہیں اور امام کو کلیجے سے لگا کر فرماتے ہیں، ”حسین وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم پیاسے شہید کئے جاؤ گے اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں۔“ یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی، اٹھے اور روضہ مقدس کے سامنے رخصت ہونے کو حاضر ہوئے۔

مسلمانو! حیاتِ دنیاوی میں امام کی یہ حاضری پچھلی (یعنی آخری) حاضری ہے، صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے بعد سر جھکا کر کھڑے ہو گئے ہیں، غم فراق کلیجے میں چنگیاں لے رہا ہے، آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہیں، رقت کے جوش نے جسم مبارک میں ریشہ پیدا کر دیا ہے، بے قرار یوں نے عرشِ ہیا کر رکھا ہے، دل کہتا ہے

سر جائے، مگر یہاں سے قدم نہ اٹھائیے، صبح کے کھٹکے کا تقاضہ ہے جلد تشریف لے جائیے، دو قدم جاتے ہیں اور پھر پلٹ آتے ہیں۔ حب وطن قدموں سے لوثتی ہے کہ کہاں جاتے ہو؟ غربتِ دامن کھینچتی ہے کیوں دیر لگاتے ہو؟ شوق کی تمنا ہے کہ عمر بھر نہ جائیں، مجبور یوں کا تقاضا ہے دم بھر نہ ٹھہرنے پائیں۔

شعبان کی چوتھی رات کے تین پہر گزر چکے ہیں اور پچھلے (یعنی آخری) پر کے نرم نرم جھونکے سونے والوں کو تھپک تھپک کر سلا رہے ہیں، ستاروں کے سنہرے رنگ میں کچھ کچھ سپیدی ظاہر ہو چکی ہے، اندھیری رات کی تاریکی اپنا دامن سمیٹنا چاہتی ہے۔ تمام شہر میں سناٹا ہے، نہ کسی بولنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے، نہ کسی چلنے والے کی کچل سنا کی دیتی ہے، شہر بھر کے دروازے بند ہیں، ہاں خاندانِ نبوت کے مکانوں میں اس وقت جاگ ہو رہی ہے اور سامانِ سفر درست کیا جا رہا ہے، ضرورت کی چیزیں باہر نکالی گئی ہیں، سواریاں دروازوں پر تیار کھڑی ہیں، محل کس گئے ہیں، پردے کا انتظام ہو چکا ہے، ادھر امام کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، گھر والے سوار ہو رہے ہیں۔ ادھر امام، مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے ہیں، محرابوں نے سر جھکا کر تسلیم کی، میناروں نے کھڑے ہو کر تعظیم دی، قافلہ سالار کے تشریف لاتے ہی نبی زادوں کا قافلہ روانہ ہو گیا ہے۔

مدینہ میں الملویت سے حضرت صفری (یعنی) امام مظلوم کی صاحبزادی اور جناب محمد بن حنفیہ (یعنی) مولیٰ علی کے بیٹے باقی رہ گئے۔

اللہ اکبر! ایک وہ دن تھا کہ حضور سرورِ عالم ﷺ نے کافروں کی ایذا دہی اور تکلیف رسانی کی وجہ سے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ والوں نے جب یہ خبر سنی، دلوں میں مسرت انگیز آنگوں نے جوش اور آنکھوں میں شادی عید کا نقشہ کھینچ گیا،

آمد آمد کا انتظار لوگوں کو آبادی سے نکال کر پہاڑوں پر لے جاتا، منتظر آنکھیں مکہ کی راہ کو جہاں تک ان کی نظر پہنچتی، ٹھنکی باندھ کر بٹھتیں، اور مشتاق دل ہر آنے والے کو دور سے دیکھ کر چونک چونک پڑتے، جب آفتاب گرم ہو جاتا، گھروں پر واپس آتے۔ اسی کیفیت میں کئی دن گزر گئے، ایک دن اور روز کی طرح وقت بے وقت ہو گیا تھا اور انتظار کرنے والے حسرتوں کو سمجھاتے، تمناؤں کو تسکین دیتے پلٹ چکے تھے، ایک یہودی نے بلندی سے آواز دی، ”راہ دیکھنے والو! پلٹو! تمہارا مقصود آیا، اور تمہارا مطلب پورا ہوا۔“ اس صدا کے سنتے ہی وہ آنکھیں جن پر ابھی حسرت آمیز حیرت چھا گئی تھی، اٹک شادی برسا چلیں، وہ دل جو مایوسی سے مرجھا گئے تھے، تازگی کے ساتھ جوش مارنے لگے، بے قرارانہ پیشوائی کو بڑھے، پروانہ وار قربان ہوتے آبادی تک لائے، اب کیا تھا؟ خوشی کی گھڑی آئی، منہ مانگی مراد پائی، گھر گھر سے نعمات شادی کی آوازیں بلند ہوئیں، پردہ نشیں لڑکیوں نے دف جائی، خوشی کے لہجوں مبارکباد کے گیت گاتی نکل آئیں،

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا
مِنْ نِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا
مَادَعَا لِلَّهِ دَاعٍ

﴿ہم پر وداع کی گھاٹیوں سے چودھویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے۔ ہم پر اللہ عزوجل کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگتے والادعا مانگتے۔﴾

بنی نجار کی لڑکیاں کلی کوچوں میں اس شعر سے اظہارِ مسرت کرتی ہوئی ظاہر ہوئیں،

لَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ
يَا حَبْلًا مُحَمَّدًا مِنْ جَارِ

﴿ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں۔ اے نجاریو! محمد ﷺ کیسے اچھے ایسے مسائے ہیں۔﴾
غرض مسرت کا جوش تھا، درود یوار سے خوشی ٹپک رہی تھی۔

(لیکن) ایک آج کا دن ہے کہ امام مظلوم سے مدینہ چھوٹا ہے، مدینہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب راحتیں، تمام آسائشیں، ایک ایک کر کے رخصت ہوتی اور خیر آباد کہتی ہیں۔ یہ سب درکنار، ناز اٹھانے والی ماں کا پڑوس، ماں جائے بھائی کا ہمسایہ اور سب سے بڑھکر امام پر اپنا بیٹا قربان کر دینے والے جدِ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قرب، کیا یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف سے آسانی کے ساتھ آنکھیں پھیر لی جائیں؟ آسانی کے ساتھ آنکھیں پھیرنی کیسی، اگر امام کو مدینہ نہ چھوڑنے پر قتل کر دیا جاتا تو قتل ہونا منظور فرماتے اور مدینہ سے پاؤں باہر نہ نکالتے، مگر اس مجبوری کا کیا علاج کہ امام کے قتل کو تھا، ہمارے پڑوس اس میدان کی جانب لئے جاتی ہے، جہاں قسمت نے پردیسیوں کے قتل ہونے، پیاسوں کے شہید کئے جانے کا سامان جمع کیا ہے۔ مدینے کی زمین جس پر آپ گھٹنوں چلے جس نے آپ کی ٹخن کی بہاریں دیکھیں، جس پر آپ کی جوانی کی کراہتیں ظاہر ہوئیں، اپنے سر پر خاکِ حسرت ڈالتی اور پردیسیں جانے والے کے پیارے پیارے نازک پاؤں سے لپٹ کر زبانِ حال سے عرض کر رہی ہے کہ ”اے ناطقہ (رضی اللہ عنہا) کے گود کے سنگار! کلیجے کی ٹیک! زندگی کی بہار! کہاں کا ارادہ فرمایا ہے؟ وہ کون سی سرزمین ہے جسے یہ عزت والے پاؤں جوہری آنکھوں کے تارے ہیں، شرفِ عزت جتنے کا قصد فرماتے ہیں؟“

اے تماشا گاہِ عالم روئے تو
تو کجا بہر تماشاہِ مے روی

﴿تمام لوگ تو تیری زیارت کے لئے آرہے ہیں، مگر تو کس طرف جا رہا ہے؟﴾
جس قدر یہ برکت والا قافلہ نگاہ سے دور ہوتا جاتا ہے اسی قدر پیچھے رہ جانے والی
پھاڑیاں اور مسجد نبوی کے منارے سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے کی خواہش زیادہ ظاہر کرتے ہیں
، یہاں تک کہ جانے والے نگاہوں سے غائب ہو گئے اور مدینہ کی آبادی پر حسرت
بھرا سناٹا چھا گیا۔

اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی الہ واصحابہ اجمعین
راستے میں عبد اللہ بن مطیع (رضی اللہ عنہ) طے، عرض کی، ”کہاں کا قصد فرمایا؟“
فرمایا، ”فی الحال مکہ کا۔“ عرض کی، ”کوئے کا عزم نہ فرمایا جائے وہ ہوا بے ڈھنگا شہر ہے
، وہاں آپ کے والد ماجد شہید ہوئے، آپ کے بھائی سے دغا کی گئی، آپ کے سوا
کہیں کا ارادہ نہ فرمائیں، اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو خدا کی قسم ہمارا ٹھکانا نہ لگا رہے
گا، ہم سب غلام بنائے جائیں گے۔“ بالآخر حضور مکہ پہنچ کر ساتویں ذی الحجہ تک امن
وامان کے ساتھ قیام فرما رہے۔

﴿کوفیوں کی طرف سے فریاد و جھوٹے وعدے اور امام مسلم کی شہادت﴾

جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کی تخت نشینی اور امام سے بیعت طلب کیے
جانے اور امام کے مدینہ چھوڑ کر کے تشریف لے آنے کی خبر پہنچی، فریب دہی و عیاری
کی پرانی روش یاد آئی، سلیمان بن صر و خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے، ہم مشورہ ہو کر امام
کو عرض لکھی کہ تشریف لائے اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائے۔ ڈیڑھ سو عرضیاں
جمع ہو جانے پر امام نے تحریر فرمایا کہ ”اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا
ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم جلد تشریف لائیں گے۔“
حضرت مسلم کوفہ پہنچے، ادھر کوفیوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام

کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ اٹھارہ ہزار داخل بیعت ہو گئے اور حضرت مسلم کو یہاں تک
باتوں میں لے جا کر اطمینان دلایا کہ انہوں نے امام کو تشریف لانے کی نسبت لکھا۔
ادھر یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ ”حسین نے مسلم کو بھیجا ہے۔ کوفے کے
حاکم نعمان بن بشیر (رضی اللہ عنہ) ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، کوفے کا بھلا
منظور ہے تو اپنی طرح کوئی زبردست ظالم بھیج۔“

اس نے عبد اللہ بن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ ”مسلم کو شہید کر دے
یا کوفہ سے نکال دے۔“ جب یہ مردک (یعنی ذلیل آدمی) کوفہ پہنچا امام کے ہمراہ اٹھارہ
ہزار کی جماعت پائی، امیروں کو دھمکانے پر مقرر کیا، کسی کو دھمکی دی، کسی کو لالچ سے
توڑ دیا۔ یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں امام مسلم کے پاس صرف تیس ۳۰ آدمی رہ گئے۔
مسلم یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے کہ کہیں پناہ لیں۔ جب دروازہ سے باہر آئے، ایک بھی
ساتھ نہ تھا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آخر ایک گھر میں پناہ لی، ابن زیاد نے یہ خبر
پاکر فوج بھیجی، جب امام مسلم کو آوازیں پہنچیں، تلوار لے کر اٹھے اور ان رو بہا منشوں
(یعنی بول مردوں) کو مکان سے باہر نکال دیا، کچھ دیر بعد پھر جمع ہو کر آئے، شیر خدا کا بھتیجا
پھر تنہا اٹھا اور آن کی آن میں ان شغالوں (یعنی میدڑوں) کو پریشان کر دیا، کئی بار ایسا
ہوا جب ان نامردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر بس نہ چلا، مجبور ہو کر چھتوں پر چڑھ گئے
پھر اور آگ کے لو کے (یعنی شعلے) پھینکنا شروع کئے، شیر مظلوم کا تن نازنین ان ظالموں
کے پتھروں سے خونا خون تھا، مگر وہ تیغ بر کف و کف برب حملہ فرماتا، باہر نکلا، اور راہ
میں جو گروہ کھڑے تھے ان پر عقاب عذاب کی طرح ٹوٹا، جب یہ حالت دیکھی ابن
اشعث نے کہا، ”آپ کے لئے امان ہے نہ آپ قتل کئے جائیں نہ کوئی گستاخی ہو۔“
مسلم مظلوم تھک کر ایک دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے، خچر سواری کے لئے حاضر ہوا،

اس پر سوار کئے گئے، ایک نے تلوار حضور کے ہاتھ سے لے لی، فرمایا "یہ پہلا کمر ہے۔" لکن اشعث نے کہا، "کچھ خوف نہ کیجئے۔" فرمایا "وہ امان کدھر گئی۔" پھر رونے لگے۔ ایک شخص بولا، "تم جیسا بہادر اور روئے۔" فرمایا "اپنے لئے نہیں روتا ہوں، رونا حسین اور آلِ حسین کا ہے کہ وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے اور انہیں اس مکروہ بد عہدی کی خبر نہیں۔" پھر لکن اشعث سے فرمایا "میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے عاجز ہو گے اور تمہاری امان کام نہ دے گی، اگر ہو سکے تو اتنا کرو کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی بھیج کر میرے حال کی اطلاع دے دو کہ وہ واپس جائیں اور کوفیوں کے فریب میں نہ آئیں۔"

جب مسلم لکن زیادہ نہاد کے پاس لائے گئے، لکن اشعث نے کہا، میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ وہ خبیث بولا، "تجھے امان دینے سے کیا تعلق؟ ہم نے تجھے ان کے لانے کو بھیجا تھا نہ کہ امان دینے کو۔" لکن اشعث چپ رہے، مسلم اس شدتِ محنت اور زخموں کی کثرت میں پیاسے تھے۔ ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھا، فرمایا "مجھے اس میں سے پلا دو۔" لکن عمرو باہلی بولا، "دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا ہے، تم اس میں ایک بوند نہ چکھنے پاؤ گے، یہاں تک کہ (معاذ اللہ) جہنم میں آبِ گرم پیو۔"

امام مسلم نے فرمایا، "لو سنگِ دل! درشتِ خواب! حیم و نثارِ حیم کا تو مستحق ہے۔" پھر عمارہ بن عقبہ کو ترس آیا، ٹھنڈا پانی منگا کر پیشِ امام کیا، امام نے پینا چاہا، پیالہ خون سے بیہ گیا (یعنی اس میں آپ کے خون کی آمیزش ہو گئی)، تین بار ایسا ہی ہوا، فرمایا "خدا کو ہی منظور نہیں۔"

جب لکن زیادہ نہاد کے سامنے گئے، اسے سلام نہ کیا وہ بھڑکا اور کہا، "تم ضرور قتل کئے جاؤ گے۔" فرمایا، "تو مجھے وصیت کر لینے دے۔" اس نے اجازت دی۔

مسلم مظلوم نے عمرو بن سعد سے فرمایا "مجھ میں تجھ میں قرابت ہے۔ اور مجھے تجھ سے ایک پوشیدہ حاجت ہے۔" اس سنگدل نے کہا "میں سننا نہیں چاہتا۔" لکن زیادہ بولا "سن لے کہ یہ تیرے چچا کی لولاد ہیں۔" وہ الگ لے گیا فرمایا "کوفہ میں، میں نے سات سو روپے قرض لئے ہیں وہ ادا کر دینا، اور بعد قتل میرا جنازہ لکن زیادہ سے لیکر دفن کرادینا اور امام حسین کے پاس کسی کو بھیج کر منع کرا بھیجنا۔" لکن سعد نے لکن زیادہ سے یہ سب باتیں بیان کر دیں۔ وہ بولا، "کبھی خیانت کرنے والے کو بھی امانت سپرد کی جاتی ہے، یعنی انہوں نے پوشیدہ رکھنے کو فرمایا تھا، تو نے ظاہر کر دیں، اپنے مال کا تجھے اختیار ہے جو چاہے کر حسین اگر ہمارا قصد نہ کریں گے، ہم ان کا نہ کریں گے، ورنہ ہم ان سے باز نہ رہیں گے، رہا مسلم کا جنازہ، اس میں ہم تیری سفارش سننے والے نہیں، پھر حکم پا کر جلا دیا، انہیں بالائے قصر لے گیا، امام مسلم برابر تسبیح و استغفار میں مشغول تھے یہاں تک کہ شہید کئے گئے اور ان کا سر مبارک یزید پلید کے پاس بھیجا گیا۔

۱۱۵۔ (رضی اللہ عنہ) کی مقامِ کربلا کی جانب روانگی

پانی نہ تیغِ عشق سے ہم نے نہیں پناہ

قربِ حرم میں بھی تو ہیں قربانیوں میں ہم

۱۱۶۔ کاپچھلا مہینہ اور حج کا زمانہ، دنیا کے دور دراز حصوں سے لاکھوں مسلمان وطن چھوڑ کر عزیزوں سے منہ موڑ کر اپنے رب جل جلالہ کے مقدس اور برگزیدہ گھر کی زیارت سے مشرف ہونے حاضر آئے ہیں، دلوں میں فرحت نے ایک جوش پیدا کر دیا ہے، اور سینوں میں سرور لہریں لے رہا ہے کہ یہی ایک راتِ پنج میں ہے صبحِ نویں تاریخ ہے اور مہینوں کی محنت و صول ہونے، مدتوں کے ارمان نکلنے کا مبارک دن ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کے گرد پھر پھر کر ٹٹا ہو رہے ہیں، مکہ معظمہ میں ہر وقت کی

چل پہل نے دن کو روزِ عید اور رات کو شبِ برأت کا آئینہ بنادیا ہے۔، کعبہ کا دلکش مناظر، کچھ ایسی دل آویز آوازوں کا سامان اپنے ساتھ لئے ہوئے ہے کہ لاکھوں کے جمعیت میں جسے دیکھتے شوق بھری نگاہوں سے اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ پردے کی چلن سے کسی محبوب و لنواز کی پیاری تجلیاں چھن چھن کر نکل رہی ہیں، جن کی ہوش ربا تاثیروں، دلکش کیفیتوں نے یہ مجلس آرائیاں کی ہیں۔ عاشقانِ دلدادہ فرقت کی مصیبتیں، جدائی کی تکلیفیں جھیل کر جب خوش قسمتی سے اپنے پیارے معشوق کے آستانہ پر حاضری کا موقعہ پاتے ہیں، ادب و شوق کی الجھن، مسرت آمیز بے قراری کی خوش آئند تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے کھینچ دیتی ہے اور وہ اپنی چٹکتی ہوئی تقدیر پر طرح طرح سے باز کرتے ہیں اور بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں،

مقامِ وجد ہے اے دل کہ کوئے یار میں آئے

بڑے دربار میں پہنچے بڑی سرکار میں آئے

غرض آج کا یہ دھوم دھامی جلسہ جو ایک غرض مشترک کے ساتھ اپنے محبوب کے در و دولت پر حاضر ہے، اپنی بھرپور کامیابی پر انتہا سے زیادہ مسرت ظاہر کر رہا ہے۔ مگر امامِ مظلوم کے مقدس چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص وجہ سے اس مجمع میں شریک نہیں رہ سکتے یا ان کے سامنے سے کسی نے پردہ اٹھا کر کچھ ایسا عالم دکھا دیا ہے کہ ان کی مقدس نگاہ کو اس مبارک منظر کی طرف دیکھنے اور ادھر متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں۔ اور اگر کسی وقت حاجیوں کے جماع کی طرف حسرت سے دیکھتے اور جِ نفل کے فوت ہونے پر اظہارِ افسوس بھی کرتے ہیں، تو تقدیر، زبانِ حال سے کہہ اٹھتی ہے کہ ”حسین تم غمگین نہ ہو اگر اس سال حج کرنے کا افسوس ہے تو میں نے تمہارے لئے حج اکبر کا سامان مہیا کیا ہے اور کمرِ شوق پر دامنِ ہمت کا مبارک

احرامِ چست باندھو، اگر حاجیوں کی سعی کے لئے مکہ کا ایک نالہ مقرر کیا گیا ہے تو تمہارے لئے مکے سے کربلا تک وسیع میدان موجود ہے۔ حاجی اگر زمزم کا پانی پیئیں گے تو تمہیں تین دن پیاسا رکھ کر شربتِ دیدار پلایا جائے گا کہ پیو تو خوب سیر ہو کر پیو، حاجی بقرِ عید کی دسویں کو مکہ میں جانوروں کی قربانیاں کریں گے، تو تم محرم کی دسویں کو کربلا کے میدان میں اپنی گود کے پالوں کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھو گے، حاجیوں نے مکے کی راہ میں مال صرف کیا ہے، تم کربلا کے میدان میں اپنی جان اور عمر بھر کی کمائی لٹا دو گے، حاجیوں کے لئے مکے میں تاجروں نے بازار کھولا ہے، تم فرات کے کنارے دوست کی خاطر اپنی دکانیں کھولو گے۔ یہاں تاجر مال فروخت کرتے ہیں، یہاں تم جانیں بچو گے، یہاں حاجی خرید و فروخت کو آتے ہیں، تمہاری دکانوں پر تمہارا دوست جلد فرمائے گا، جو پہلے ہی ارشاد کر چکا ہے ”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں مول لے لئے ہیں۔“ (التوبہ: ۱۱)۔ پ ۱۱

غرض ان کیفیتوں نے کچھ ایسا از خود رفتہ بنادیا ہے کہ امامِ عالی مقام (رضی اللہ عنہ) نے بقرِ عید کی آٹھویں تاریخ کو فتنے کا قصد فرمایا، جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عمر بن عبد الرحمن (رضی اللہ عنہ) نے اس ارادے کا خلاف کیا اور جانے سے مانع آئے، (حضرت امامِ عالی مقام (رضی اللہ عنہ) نے) فرمایا ”جو ہونی ہے، ہو کر رہے گی۔“ عبد اللہ ابن عباس (رضی اللہ عنہ) نے نہایت عاجزی سے روکنا چاہا، اور عرض کی، ”کچھ دنوں تا مل فرمائیے اور انتظار کیجئے، اگر کوئی امنِ زیادہ کو قتل کر دیں اور دشمنوں کو نکال باہر کر دیں تو جانئے کہ نیک نیتی سے بلاتے ہیں اور اگر وہ ان پر قابض اور دشمن موجود ہیں تو ہرگز وہ حضور کو بھلائی کی طرف نہیں بلاتے، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ یہ بلانے والے ہی مقابل

آئیں گے۔“ فرمایا، ”میں استخارہ کروں گا۔“ عبد اللہ ابن عباس (رضی اللہ عنہ) پھر آئے اور کہا، ”بھائی صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، مجھے اس روائگی میں آپ کے شہید ہو جانے کا اندیشہ ہے، عراقی بد عمد ہیں، انہوں نے آپ کے باپ کو شہید کیا، آپ کے بھائی کا ساتھ نہ دیا، آپ اہل عرب کے سردار ہیں، عرب ہی میں قیام رکھئے یا عراقیوں کو خط لکھئے کہ وہ انہی زیاد کو نکال دیں، اگر ایسا ہو جائے تشریف لے جائیے اور اگر تشریف ہی لے جاتا ہے تو یمن کا قصد فرمائیے کہ وہاں قلعے ہیں، گھاٹیاں ہیں اور وہ ملک ایک وسیع سر زمین رکھتا ہے۔“ فرمایا، ”بھائی خدا کی قسم! میں آپ کو ناصح مشفق جانتا ہوں، مگر میں تو ارادہ معصوم (یعنی بد ارادہ) کر چکا۔“ عرض کی، ”تو میریوں کو ساتھ نہ لے جائیے۔“ یہ بھی منظور نہ ہوا۔

عبد اللہ ابن عباس (رضی اللہ عنہ) ہائے پیارے! ہائے پیارے! کہہ کر رونے لگے۔ اسی طرح عبد اللہ ابن عمر (رضی اللہ عنہ) نے منع کیا، نہ مانا، انہوں نے پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر کہا، ”اے شہید ہونے والے! میں تمہیں خدا کو سونپتا ہوں۔“

یونہی عبد اللہ ابن زبیر (رضی اللہ عنہ) نے روکا، فرمایا، ”میں نے اپنے والد صاحب سے سنا ہے کہ ایک مینڈھے کے سبب سے ککے کی بے حرمتی کی جائے گی، میں پسند نہیں کرتا کہ وہ مینڈھا میں ہوں۔“ جب روانہ ہوئے، راہ میں آپ کے چچا اور بھائی حضرت عبد اللہ ابن جعفر (رضی اللہ عنہ) کا خط ملا، لکھا تھا، ”ذرا ٹھہریئے میں ابھی آتا ہوں۔“

حضرت عبد اللہ (رضی اللہ عنہ) نے عمرو بن سعید حاکم مکہ سے امام مظلوم کے لئے ایک خط ”لہان اور واپس بلانے کا“ مانگا، انہوں نے لکھ دیا اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو واپس لانے کے لئے ساتھ کر دیا۔ دونوں حاضر آئے اور سر سے پاؤں تک گئے (یعنی بے

مد امر کیا) کہ واپس تشریف لے چلیں، مقبول نہ ہوا۔ فرمایا، ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے ایک حکم دیا گیا ہے، اس کی تعمیل کروں گا، سر جائے خواہ رہے نہ رہے۔“ پوچھا، ”وہ خواب کیا ہے؟“ فرمایا، ”جب تک زندہ ہوں کسی سے نہ کہوں گا۔“ یہ فرما کر روانہ ہو گئے۔

نظم

سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا
اے حسین، لن علی، سبط پیغمبر مت جا
صدے داں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا
جانا کوفہ کا ہرگز نہیں بہتر مت جا
حق نما آئینہ ہے رخ تیرا اندھے ہیں وہی
لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا
سب باداں سے چا جام بلوریں اپنا
ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہیں بدتر مت جا
گل شاداب نبی اب اپنے چمن سے نہ نکل
ناز نہیں پھول ہے ٹوکا نٹوں کے اندر مت جا
چلتے ہیں سر سر آفات کے مظالم جھوٹے
شمع زو قلعہ فانوس سے باہر مت جا
نوحید، لان عمر، جلد ملن عباس
تھاپی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا
میدل اس شاہ کو عقل میں تغالے ہی گئی
کتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا
جب امام کے بھائی امام محمد حنفیہ (رضی اللہ عنہ) کو روائگی کام کی خبر پہنچی، طشت میں دھو فرما رہے تھے، اس قدر روئے کہ طشت آنسوؤں سے بھر دیا، امام تھوڑی دور پہنچے ہیں کہ خرزاق شاعر کو نے سے آتے ملے، کوفیوں کا حال پوچھا، عرض کیا ”اے رسول اللہ ﷺ کے جگر پارے! ان کے دل حضور کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنتی امیہ کے ساتھ، قضا آسمان سے اترتی ہے اور خدا جو پاہتا ہے کرتا ہے۔“

انہی زیاد کی جانب سے ناکہ بندی

غرض ادھر تو امام روانہ ہوئے، ادھر ان زیاد بد نما دہلی فساد کو جب یہ خبر پہنچی، قادسیہ سے خفان و کوہ لعل اور قطیفانہ تک فوج سے ناکہ بندیاں کرا دیں اور قیامت تک

کے مسلمانوں کے دلوں کو گھائل کرنے اور کلیجوں میں گھاؤ ڈالنے کی جیاد ڈال دی۔ امام مظلوم نے قیس بن مسر کو اپنی تشریف آوری کی اطلاع دینے کو بھجھا، جب یہ مرحوم قادسیہ پہنچے، ابن زیاد کے سپاہی گرفتار کر کے اس خبیث کے پاس لے گئے۔ اس مردود نے کہا، ”اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو اس چھت پر چڑھ کر حسین کو گالیاں دے۔“ یہ سن کر وہ خاندان نبوت کا فدائی، اہل بیت رسالت کا شیدائی چھت پر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد بلند آواز سے کہنے لگا، ”حسین آج تمام جہاں سے افضل ہیں، رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی فاطمہ زہرا کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، مولیٰ علی کی آنکھوں کے نور، دل کے مُرد ہیں، میں ان کا قاصد ہوں، ان کا حکم مانو اور ان کی اطاعت کرو، پھر کما اللہ زیاد اور اس کے باپ پر لعنت۔“

آخر کار اس مردک نے جل کر حکم دیا کہ چھت سے گرا کر شہید کئے جائیں اس وقت اس بادۃ الفت (یعنی شراب الفت) کے متوالے کا بے قرار دل، امام عرش مقام کی طرف منہ کئے التجا کے لہجے میں عرض کر رہا ہے،

بجرم عشق لوام مے کشند غوغائیست

تونیز بر سر بام آ کہ خوش تماشائیست

﴿میرا جرم تیرے عشق کے سوا اور کچھ نہیں، یہ اسی کا شور ہے۔ تو مہربانی کر کے میرے پاس آؤ، کیونکہ تمہاری زیارت بہت عمدہ ہے۔﴾

﴿زہیر بن قین مجلی (رضی اللہ عنہ) کی معیت﴾

امام مظلوم آگے بڑھے تو راہ میں زہیر بن قین مجلی (رضی اللہ عنہ) ملے، وہ حج سے واپس آتے تھے اور مولیٰ علی (رضی اللہ عنہ) سے کچھ کدورت رکھتے تھے۔ دن بھر امام کے ساتھ رہتے، رات کو علیحدہ ٹھہرتے۔ ایک روز امام نے بلا بھجھا، بکراہت آئے

خدا جانے کیا فرمایا اور کس ادا سے دل چھین لیا کہ اب جو واپس آئے تو اپنا اسباب امام کے اسباب میں رکھ دیا اور ساتھیوں سے کہا، جو میرے ساتھ رہنا چاہے رہے ورنہ یہ ملاقات، پچھلی (یعنی آخری) ملاقات ہے، پھر اپنا سامان لے آئے اور امام کے ساتھ ہو جانے کا سبب بیان کیا کہ شہر ملنجز پر ہم نے جہاد کیا، وہ فتح ہوا، کثیر نعمتوں کے ملنے پر ہم بہت خوش ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا، ”جب تم جو انان آل محمد ﷺ کے سردار کو پاؤ تو ان کے ساتھ دشمن سے لڑنے پر اس سے زیادہ خوش ہونا۔“ اب وہ وقت آ گیا ہے، میں تم سب کو سپردِ خدا کرتا ہوں، پھر اپنی علی علی کو طلاق دے کر کہا، ”گھر جاؤ، (کیوں کہ ایسا نہ ہو) کہ میرے سبب سے تم کو کوئی نقصان پہنچے۔“

خدا جانے ان اچھی صورت والوں کی اداؤں میں کس قیامت کی کشش رکھی گئی ہے، یہ جسے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، وہ ہر طرف سے ٹوٹ کر انہیں کاہور ہوتا ہے۔ پھر یاد آتا ہے باری رہتی ہے منہ زن و مرد کی پاسداری۔ آخر یہ وہی رہبر تو ہیں جو مولیٰ علی (رضی اللہ عنہ) سے کدورت رکھتے اور رات کو امام سے علیحدہ ٹھہرتے تھے، یہ انہیں کیا ہو گیا؟ اور کس کی ادا نے مار رکھا (یعنی اپنا عاشق بنالیا) جو عزیزوں کا ساتھ چھوڑنے، عورت کو طلاق دینے پر مجبور ہو کر بے کسی سے جان دینے اور مصیبتیں جھیل کر شہید ہونے کو آمادہ ہو گئے۔

﴿امام مسلم (رضی اللہ عنہ) کی شہادت کی خبر﴾

اب یہ قافلہ اور بڑھا تو ابن اشعث کا بھجھا ہوا آدمی ملا، جو حضرت مسلم کی وصیت پر عمل کرنے کی غرض سے بھجھا گیا، اس سے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر بعض ساتھیوں نے امام کو قسم دی کہ یہیں سے پلٹ چلے۔ مسلم شہید کے

عزیزوں نے کہا، ”ہم کسی طرح نہیں پلٹ سکتے، یا خون ناحق کا بدلہ لیں گے یا مسلم مرحوم سے جا ملیں گے۔“ امام نے فرمایا کہ ”تمہارے بعد زندگی بے کار ہے۔“ پھر جو لوگ راہ میں ساتھ ہو لئے تھے ان سے ارشاد کیا، ”کو فیوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے پلٹ جائے، ہمیں کچھ ناگوار نہ ہوگا۔“ یہ اس غرض سے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھ کر ہمراہ ہوئے تھے کہ امام ایسی جگہ تشریف لے جاتے ہیں جہاں کے لوگ داخل بیعت ہو چکے ہیں، یہ سن کر سوائے چند ہمد گان خدا کے جو مکہ معظمہ سے ہم رکاب سعادت مآب تھے، سب اپنی اپنی راہ گئے۔

پھر ایک عربی ملے۔ عرض کی کہ ”اب تیغ و سنان پر جانا ہے (یعنی اب آگے تشریف لے جانا اپنے آپ کو تلواروں اور نیزوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔) آپ کو قسم ہے کہ واپس جایئے۔“ فرمایا، ”جو خدا چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے۔“

○ حضرت حر (رضی اللہ عنہ) کی آمد ○

اب امام عالی مقام موضع شراف سے آگے بڑھے ہیں۔ یہ دوپہر کا وقت ہے، یکا یک ایک صاحب نے اللہ اکبر کہا، فرمایا ”کیا ہے؟“ کہا ”کھجور کے درخت نظر آئے ہیں۔“ قبیلہ بنی اسد کے دو شخصوں نے کہا ”اس زمین میں کھجور کبھی نہ تھی۔“ فرمایا ”پھر کیا ہے؟“ عرض کی ”سوار معلوم ہوتے ہیں۔“ فرمایا ”میرا بھی یہی خیال ہے، اچھا تو یہاں کوئی پناہ کی جگہ ہے کہ اسے ہم اپنی پشت پر لے کر اطمینان کے ساتھ دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔“ کہا ”ہاں! کوہ ذو حشم، اگر حضور ان سے پہلے اس تک پہنچ گئے۔“

یہ باتیں ہو، ہیں تمہیں کہ سوار نظر آئے اور امام سبقت فرما کر پہاڑ کے پاس ہو لئے، جب وہ اور قریب آئے تو معلوم ہوا کہ ٹر ہیں جو ایک ہزار سواروں پر افسر بنا کر

امام کو لکن زیادہ نہاد کے پاس لے جانے کے لئے بھیجے گئے ہیں، اس ٹھیک دوپہر میں اصحاب امام کے سامنے اترے۔ مالک کوثر کے بیٹے نے حکم دیا کہ ”انہیں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔“ ہمراہیان امام نے پانی پلایا۔

جب ظہر کا وقت ہوا، امام نے مؤذن کو حکم دیا، پھر ان لوگوں سے فرمایا، ”تمہاری طرف میرا آنا اپنی مرضی سے نہ ہوا، تم نے خط اور قاصد بھیج بھیج کر بلایا، اب اگر اطمینان کا اقرار کرو، تو میں تمہارے شر کو چلوں ورنہ واپس جاؤں۔“ کسی نے جواب نہ دیا اور مؤذن سے کہا تکبیر کہو۔ امام نے حر سے فرمایا، ”اپنے ساتھیوں کو تم نماز پڑھاؤ گے؟“ کہا ”نہیں، آپ پڑھائیں اور ہم سب مقتدی ہوں (گئے)۔“ بعد نماز حر، اپنے مقام پر گئے۔ امام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد ان لوگوں سے ارشاد کیا، ”اگر تم اللہ سے ڈرو اور حق کو اس کے اہل کے لئے پہچانو تو خدا تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ ہم اہل بیت ان ظالموں کے مقابلہ میں ”اولی الامر“ (یعنی حاکم) ہونے کے مستحق ہیں، بایں ہمہ (یعنی اس سب کے ساتھ ساتھ) اگر تم ہمیں ناپسند کرو اور ہمارا حق نہ پہچانو اور اپنے خلوں اور قاصدوں کے خلاف ہمارے بارے میں رائے رکھنا چاہو تو میں واپس جاؤں۔“

حر نے عرض کی ”واللہ! ہم نہیں جانتے کیسے خط اور کیسے قاصد؟“ امام نے بھرے ہوئے خط نکال کر سامنے ڈال دیئے۔ حر نے کہا ”میں خط بھیجنے والوں میں نہیں، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، جب آپ کو پاؤں تو کوفہ، لکن زیادہ کے پاس پہنچاؤں۔“ فرمایا ”تیری موت نزدیک ہے اور یہ ارادہ دور۔“ پھر ہمراہیوں کو حکم دیا کہ ”واپس چلیں۔“ حر نے روکا۔ فرمایا ”تیری ماں تجھے روئے کیا چاہتا ہے؟“ کہا ”سنئے! خدا کی قسم آپ کے سوا تمام عرب میں کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بدمذہب سے کہتا۔ کسے باشد (یعنی

کوئی بھی ہو، واللہ آپ کی ماں کا نام پاک تو میں ایسے موقع پر لے ہی نہیں سکتا۔“ فرمایا ”آخر مطلب کیا ہے؟“ عرض کی ”ابن زیاد کے پاس حضور کا لے چلنا۔“ فرمایا ”تو خدا کی قسم! تیرے ساتھ نہ چلوں گا۔“ کہا ”تو خدا کی قسم! آپ کو نہ چھوڑوں گا۔“

جب بات بڑھی اور حرنے دیکھا، امام یوں راضی نہ ہوں گے اور کسی گستاخی کی نسبت ان کے ایمان نے اجازت نہ دی تو یہ عرض کی کہ ”میں دن بھر تو حضور کے ساتھ سے علیحدہ ہو نہیں سکتا، ہاں جب شام ہو تو آپ مجھ سے عورتوں کی ہمراہی کا عذر فرما کر علیحدہ ٹھہریے اور رات میں کسی وقت موقع پا کر تشریف لے جائیے، میں ابن زیاد کو کچھ لکھ لکھوں گا۔ شاید اللہ تعالیٰ کوئی وہ صورت کرے کہ میں کسی معاملہ میں مبتلا ہونے کی جرات نہ کر سکوں۔“

﴿کو فیوں کی بے وفائی اور قیس بن مسہر کی شہادت کی خبر﴾

جب عذیب الجہانات پہنچے تو کوفنے سے چار شخص آتے طے، حال پوچھا، مجمع بن عبید اللہ عامری نے عرض کی، ”شہر کے رئیسوں کو بھاری رشوتوں سے توڑ لیا گیا ہے اور ان کے تمیلیوں کو روپوں اشرفیوں سے بھر دیا گیا ہے وہ تو ایک زبان حضور کے مخالف ہو گئے۔ رہے عوام ان کے دل حضور کی جانب جھکتے ہیں اور کل انہیں کی تلواریں حضور پر کھینچیں گی۔“ فرمایا ”میرے قاصد قیس کا کیا حال ہے؟“ کہا ”قتل کئے گئے۔“ امام بے اختیار رو پڑے اور فرمایا ”کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی انتظار میں ہے، الٹی ہمیں اور انہیں جنت میں جمع فرما۔“

طرماح بن عدی نے عرض کی، ”آپ کے ساتھ گنتی کے آدمی ہیں اگر حرکی جماعت ہی آپ سے لڑے تو کفایت کر سکتی ہے، نہ کہ وہ جماعت جو چلنے سے ایک دن پہلے میں نے کوفہ میں دیکھی تھی، جو آپ کی طرف روانگی کے لئے تیار ہے۔ میں نے

اپنی تمام عمر اتنی بڑی فوج کبھی نہ دیکھی، میں حضور کو قسم دیتا ہوں کہ اگر ان سے ایک بالشت بھر جدائی کی قدرت ہو تو اسی قدر کیجئے اور اگر وہ جگہ منظور ہو جہاں باذن اللہ تعالیٰ آرام و اطمینان سے قیام فرما کر تدبیر فرمائیے تو میرے ساتھ کوہ آجاء کی طرف چلے، واللہ اس پہاڑ کے سبب سے ہم بادشاہان غسان و حمیر اور نعمان بن المذہر بلکہ عرب و عجم کے سب حملوں سے محفوظ رہے۔ حضور! وہاں ٹھہر کر آجاؤ، سارے کے رہنے والوں کو فرمان تحریر فرمائیے، خدا کی قسم دس دن نہ گزریں گے کہ قوم طے کے سوار پیادے حاضر خدمت ہوں گے، پھر جب تک مرضی مبارک ہو ہم میں ٹھہریے اور اگر پیش قدمی کا قصد ہو تو بنی طے سے بیس ہزار نوجوان حضور کے ہمراہ کر دینے کا میرا ذمہ ہے، اور جو حضور کے سامنے تلوار چلائیں گے اور جب تک ان میں کوئی آنکھ پلک باقی رہے گی حضور تک دشمن نہ پہنچ سکیں گے۔“ ارشاد ہوا، ”اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، ہمارا اور کو فیوں کا کچھ قول ہو گیا ہے جس سے ہم نہیں پھر سکتے۔“ یہ فرما کر انہیں رخصت کیا۔

﴿امام علی (رضی اللہ عنہ) کا خواب دیکھنا﴾

امام نے راہ میں ایک خواب دیکھا، جاگے تو انا للہ وانا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، فرماتے ہوئے اٹھے۔ امام زین العابدین نے عرض کی ”اے باپ! میں آپ پر قربان، کیا بات ملاحظہ فرمائی؟“ فرمایا ”خواب میں ایک سوار دیکھا کہ کہہ رہا ہے، لوگ چلتے ہیں اور ان کی تضاہیں ان کی طرف چل رہی ہیں میں (اس قول کا مطلب یہ) سمجھا (ہوں) ہمیں ہمارے قتل کی خبر دی جاتی ہے۔“ حضرت عابد (رضی اللہ عنہ) نے کہا ”اللہ آپ کو کوئی برائی نہ دکھائے کیا ہم حق پر نہیں۔“ فرمایا ”ضرور ہیں۔“ عرض کی ”جب ہم حق پر جان دیتے اور قربان ہوتے ہیں، تو کیا پرواہ ہے؟“

سے مشورہ کیا، سب نے ممانعت کی اور اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا،
 ”اے باموں! میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کر کے گناہ گار ہو گا،
 اللہ کی قسم اگر ساری دنیا تیری سلطنت میں ہو تو اسے چھوڑنا اس سے آسان ہے کہ تُو
 خدا سے حسین کا قاتل ہو کر ملے۔“ کہا ”نہ جاؤں گا۔“ مگر ناپاک دل میں تردد رہا، رات
 کو آواز آئی، کوئی کہتا ہے،

اَتَرَكُ مُلْكَ الرُّمِّي وَالرُّمِّي رَغْبَةً
 اَمْ اَرْجِعُ مَذْمُومًا بِقَتْلِ حُسَيْنٍ

وَفِي قَتْلِهِ النَّارُ الَّتِي لَيْسَ دُونَهَا
 حِجَابٌ وَمُلْكُ الرُّمِّي قُرَّةُ الْعَيْنِ

چھ کیا میں رے کی حکومت چھوڑ دوں حالانکہ رے مرغوب چیز ہے یا قتل حسین کی
 مذمت گوارہ کروں اور ان کے قتل میں وہ آگ ہے جس کی روک نہیں اور رے کی
 سلطنت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

آخر قتل امام مظلوم ہی پر رائے قرار پائی، بے دین نے الدِّينُ مَزْرَعَةُ الدُّنْيَا
 (یعنی دین، دنیا کی کھیتی ہے) کی ٹھہرائی۔ ۱۔

امام مظلوم (رضی اللہ عنہ) پر پانی بند ہونا

عمر بن سعد نے فرات کے گھاٹوں پر پان سو سوار بھیج کر، ساقی کوثر (علیہ السلام) کے
 بیٹے پر پانی بند کر وادیا۔ ایک رات امام نے بلا بھیجا، دونوں لشکروں کے بیچ میں حاضر آیا
 ۔ دیر تک باتیں رہیں، امام نے سمجھایا کہ ”اہل باطل کا ساتھ چھوڑ۔“ کہا کہ
 میرا گھر ڈھایا جائے گا۔“ فرمایا ”اس سے بہتر ہو اوروں گا۔“ کہا کہ ”میری جائیداد چھین

۱۔ یعنی ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ وہ دنیا کو دین پر قربان کر دیتا لیکن اس نے اپنی بد قسمتی سے برعکس معاملہ کیا۔

جائے گی۔“ ارشاد ہوا ”اس سے اچھی عطا فرماؤں گا۔“

لن سعد کی طرف سے لن زید کو مصلحت آمیز خط اور شمر کا امام کے خلاف ورغلا نا

تین چار راتیں یہی باتیں رہیں، جن کا اثر اس قدر ہوا کہ ابن سعد نے ایک صلح
 آمیز خط ابن زید کو لکھا کہ ”حسین چاہتے ہیں یا تو مجھے واپس جانے دو یا زید کے پاس لے
 چلو یا کسی اسلامی سرحد پر چلا جاؤں، اس میں تمہاری مراد حاصل ہے۔“ حالانکہ امام نے
 زید پلید کے پاس جانے کو ہرگز نہ فرمایا تھا، ابن زید نے خط پڑھ کر کہا، ”بہتر ہے۔ شمر
 ذی الجوشن (یعنی زرہ والا) خبیث بولا، ”کیا یہ باتیں مانے لیتا ہے؟ خدا کی قسم اگر
 حسین بے تیری اطاعت کئے چلے گئے تو ان کے لئے عزت و قوت ہوگی اور تیرے
 واسطے ضعف و ذلت، یوں نہیں بلکہ تیرے حکم سے جائیں، اگر تُو سزا دے تو مالک ہے
 اور اگر معاف کرے تو تیرا احسان ہے، میں نے سنا ہے کہ حسین اور ابن سعد میں رات
 رات بھر باتیں ہوتی ہیں۔“ ابن زید نے کہا، ”تیری رائے مناسب ہے تُو میرا خط ابن
 سعد کے پاس لے جا کر وہ مان لے تو اس کی اطاعت کرنا ورنہ تُو سردار لشکر ہے اور ابن
 سعد کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔“ پھر ابن سعد کو لکھا کہ ”میں نے تجھے حسین کی
 طرف اس لئے بھیجا تھا کہ تو ان سے دست کش ہو یا امید دلائے اور ڈھیل دے یا ان کا
 سفارشی ہے؟ دیکھ! حسین سے میری فرمانبرداری کے لئے کہہ، اگر مان لیں تو مطیع بنا
 کر یہاں بھیج دے ورنہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر، اگر تو ہمارا حکم مانے گا
 تو تجھے فرماں برداری کا انعام ملے گا ورنہ ہمارا لشکر شمر کے لئے چھوڑ دے۔“

جب شمر نے خط لیا تو عبد اللہ ابن ابی اسحق بن حزام اس کے ساتھ تھا، اس کی
 پھوپھی ام النین بنت حزام (رضی اللہ عنہا) ’مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی زوجہ
 اور پسران مولیٰ علی (رضی اللہ عنہ)، حضرت عباس و عثمان و عبد اللہ و جعفر (رضی اللہ

منعم کی والدہ تھیں، اس نے ابن زیاد سے اپنے ان پھوپھی زاد بھائیوں کے لئے امان مانگی، اس نے لکھ دی۔ وہ خط اس نے ان صاحبوں کے پاس بھیجا، انہوں نے فرمایا، ”ہمیں تمہاری امان کی حاجت نہیں، ابن سمیہ کی امان سے اللہ تعالیٰ کی امان بہتر ہے۔“

شمر کی ابن سعد کے پاس آمد

جب شمر نے ابن سعد کو ابن زیاد بد نہاد کا خط دیا، اس نے کہا ”تیرا اہو، میرا خیال ہے کہ تو نے ابن زیاد کو میری تحریر پر عمل کرنے سے پھیر کر کام بگاڑ دیا، مجھے صلح ہو جانے کی پوری امید تھی، حسین تو ہرگز اطاعت کو قبول کریں گے ہی نہیں، خدا کی قسم ان کے باپ کا دل ان کے پہلو میں رکھا ہوا ہے۔“ شمر نے کہا، ”لب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟“ بولا، ”جو ابن زیاد نے لکھا ہے۔“ شمر نے عباس اور ان کے حقیقی بھائیوں کو بلا کر کہا، ”اے بھانجوا! تمہیں امان ہے۔“ وہ بولے ”اللہ کی لعنت تجھ پر اور تیری امان پر، ماموں بن کر ہمیں امان دیتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے بیٹے کو امان نہیں۔“

نو محرم الحرام اور خواب میں جد کریم ﷺ کی تشریف آوری

یہ منجانبہ کی شام اور محرم کی نویں تاریخ ہے اس وقت سردار جوانانِ جنت کے مقابلہ میں چمنی لشکر کو جنبش دی گئی ہے اور وہ ہے شہادت کا متوالا، حیدری کچھار کا شیر، خیمہ اطہر کے سامنے تیغ بھٹ جلوہ فرما ہے۔ آنکھ لگ گئی ہے، خواب میں اپنے جد کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ اپنے نختِ جگر کے سینہ پر دستِ اقدس رکھے فرما رہے ہیں ”اَللّٰهُمَّ اَعْظِ الْحُسَيْنَ صَبْرًا وَآجِرْهُ الْاَلٰی حُسَيْنَ کو صبر و اجر عطا کر۔“ اور ارشاد ہوتا ہے کہ ”اب تم قریب ہم سے ملنا چاہتے اور اپنا روزہ ہمارے پاس آکر افطار کیا چاہتے ہو۔“ جوشِ مسرت میں امام کی آنکھ کھل گئی، ملاحظہ فرمایا، دشمن حملہ آوری کا قصد کر رہے ہیں، جمعہ کے خیال اور پسماندوں کو وصیت کرنے کی غرض

سے امام نے ایک رات کی مہلت چاہی، لکن سعد نے مشورہ لیا، عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا ”اگر وہ بلم کے کافر بھی تم سے ایک رات مہلت مانگتے تو دینی چاہئے تھی۔“ غرض مہلت دی گئی۔

شکر امام عالی مقام کی طرف سے مقابلے کی تیاری

یہاں یہ کاروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیئے گئے، طنائوں سے طنائیں ملا دیں، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دی۔

اب مسلمان ان کاموں سے فارغ ہو کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام اپنے اہل ساتھیوں سے فرما رہے ہیں، ”صبح ہمیں دشمنوں سے ملنا ہے، میں نے خوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے الماریت سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ تم سب کو جزائے خیر دے، دیہات دیہات میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے، دشمن جب مجھے پائیں گے، تمہارا پیچھا نہ کریں گے۔“ یہ سن کر امام کے بھائیوں ’صاحبزادوں‘ بھتیجوں اور عبد اللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی ”یہ ہم کس لئے کریں اس لئے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں، اللہ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم باقی ہوں۔“

مسلم شہید کے بھائیوں سے فرمایا گیا، ”تمہیں مسلم کا قتل ہونا ہی کافی ہے میں اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔“ عرض کی اور ہم لوگوں سے جا کر کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ ”اپنے سردار، اپنے آقا، اپنے سب سے بہتر بھائی کو دشمنوں کے زرعے میں چھوڑ آئے ہیں نہ ان کے ساتھ کوئی تیر پھینکا، نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی اور ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے

چلے آنے کے بعد ان پر کیا گزری؟ خدا کی قسم! ہم ہر گز ایسا نہیں کریں گے بلکہ اپنی جانیں، اپنے بال بچے تمہارے قدموں پر فدا کر دیں گے، تم پر قربان ہو کر مر جائیں گے اللہ اس زندگی کا براہو جو تمہارے بعد ہو۔“

خوشا عالی کہ گردم گردِ کویت

رخے نہ خوں گریباں پارہ پارہ

کتنی بلند قسمت ہے کہ میں تیری گلی میں گھوم رہا ہوں اور میرا چہرہ خون آلود ہے اور گریبان چاک ہے۔

مسلم بن عوجہ اسدی نے عرض کی، ”کیا ہم حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں حالانکہ ابھی ہم نے حضور کا کوئی حق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت کی جگہ پیدا نہ کی، خدا کی قسم! میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اپنا نیزہ دشمنوں کے سینوں میں توڑ دوں اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے، وار کئے جاؤں، خدا گواہ ہے اگر میرے پاس ہتھیار بھی نہ ہوتے تو میں پتھر مارتا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ مارا جاتا۔“ اسی طرح اور سب ساتھیوں نے بھی گزارش کی۔ اللہ عزوجل ان سب کو جزائے خیر دے اور جنات الفردوس میں امام عالی مقام (رضی اللہ عنہ) کا ساتھ اور ان کے جد کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سایہ عطا فرمائے اور دنیا و آخرت و قبر و حشر میں ہمیں ان کے برکات سے بہرہ مندی بخشے۔ آمین یا ارحم الراحمین

اسی رات میں امام نے کچھ ایسے شعر پڑھے جن کا مضمون حسرت و بے کسی کی تصویر آنکھوں کے سامنے کھینچ دے، زمانہ صبح مشام خدا جانے کتنے دوستوں اور عزیزوں کو قتل کرتا ہے اور جسے قتل کرنا چاہتا ہے اس کے بدلے میں دوسرے پر راضی نہیں ہوتا۔ ہونے والے واقعے کی خبر دینے والی دل خراش آواز حضرت زینب (رضی اللہ

عنها) کے کان میں پہنچی، صبر نہ ہو سکا بے تاب ہو کر چلاتی ہوئی دوڑیں، ”کاش! اس دن سے پہلے موت آگئی ہوتی، آج میری ماں فاطمہ (ؑ) کا انتقال ہوتا ہے، آج میرے باپ علی (رضی اللہ عنہ) دنیا سے گزرتے ہیں، آج میرے بھائی حسن (رضی اللہ عنہ) کا جنازہ نکلتا ہے، اے حسین! اے گزرے ہوؤں کی نشانی لوز پسماندوں کی جائے پناہ! پھر غش کھا کر گر پڑیں۔“

اللہ اکبر! آج مالک کوثر کے گھر میں اتنا پانی بھی نہیں کہ بے ہوش بہمن کے منہ پر چھڑکا جائے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا ”اے بہمن! اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، جان لو سب زمین والوں کو مرنا اور سب آسمان والوں کو گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو فنا ہے، میرے باپ، میری ماں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے۔ ہر مسلمان کو رسول اللہ ﷺ کی راہ چلنی چاہیے۔“

اب قیامت قائم ہوتی ہے

بہادوں پر جس کج گزارش گزارِ جنت کی

سوری آئے دلی ہے شہیدانِ محبت کی

کھلے ہیں گل بہادوں پر ہے پھلوری جراحت کی

فضا ہر زخم کے دامن سے دھستہ ہے جنت کی

کلا کٹوا کے بڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی

کوئی تقدیر تو دیکھے اسیرانِ امت کی

شہید ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو

ہوائیں آتی ہیں من کھڑ کیوں سے بلغ جنت کی

کرم والوں نے در کھولا تو رحمت کا سماں باندھا

کمر باندھی تو قسمت کھول دی فضلِ شہادت کی

علی کے پیدے خاتون قیامت کے جگر پدے
زمیں سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیاحت کی

نہن کر بلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا
جی ہے انجمن روشن ہیں شمعیں نور و ظلمت کی

یہ وہ شمعیں نہیں جو پھونک دیں اپنے فدا کی کو
یہ وہ شمعیں نہیں رو کر جو کاٹیں رات آفت کی

یہ وہ شمعیں ہیں جن سے جان مادہ پائیں پروانے
یہ وہ شمعیں ہیں جو نہں کر گزاریں شب مصیبت کی

یہ وہ شمعیں نہیں جن سے فقط اک گھر منور ہو
یہ وہ شمعیں ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی

دل حورو ملائک رہ گیا حیرت زدہ ہو کر
کہ ہم گل زخاں میں لے بلائیں کس کی صورت کی

جد اہوتی ہیں جانیں جسم سے جاں سے ملتے ہیں
ہوئی ہے کربلا میں گرم مجلس وصل و فرقت کی

اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں
اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی

ہوا چھڑکا پانی کی جگہ ایک چم سے
جائے فرش آنکھیں بچھ گئیں دل بہیرت کی

ہوائے یار نے چکھے بنائے پر فرشتوں کے
سبیلیں رکھی ہیں دیدار نے خود اپنے شرم کی

ادھر افلاک سے لائے فرشتے ہمار رحمت کے
ادھر ساغر لے حوریں چلی آتی ہیں جنت کی

بچے ہیں زخم پھولوں سے دو رنگین گلہ سے
بہار خوشنما کی پر ہے صدقے روح جنت کی

ہوائیں گلشن فردوس سے بس کر آتی ہیں
نرالی عطر میں ڈوبی ہوئی ہیں روح نکمت کی

دل پر یوز کے سلائے اگر سوزا ہی کثرت سے
کہ پہنچی عرش و طیبہ تک لپٹ سوز محبت کی

لوہر چلمن اٹھی حسن ازل کے پاک جلووں سے
لوہر چکی جگلی بدو تباہ رسالت کی

نہن کر بلا پر آج ایسا حشر برپا ہے
کہ کھج کھج کر مٹی جاتی ہے تصویریں قیامت کی

گھٹائیں مصطفیٰ کے چاند پر کھر کر آئی ہیں
یہ کاروان امت تیرہ عتبان شقوت کی

یہ کس کے خون کے پائے ہیں اس کے خون کے پائے
خجے کی پیاس جس سے تھن کا مان قیامت کی

اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں دار چلتے ہیں
مٹاوی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی

مگر شیر خدا کا شیر جب ہمارا کر غضب آیا
پرے ٹوٹی نظر آنے لگی صورت ہزیمت کی

کما یہ لاسہ دے کر ہاتھ پر جوش دلیری نے
بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی

تصدق ہو گئی جان شجاعت بچے تیور کے
فدا شیرانہ حملوں کی لدا پر روح، جزأت کی

نہ ہوتے مگر حسینؑ علی اس پیاس کے بھوکے
نکل آتی نغمہ کر بلا سے سر جنت کی

مگر مقصود تھا پیاس ہی بگلا ان کو کٹوانا
کہ خواہش پیاس سے ماضی ہے رویت کے شرم کی

شہید نازکھ دیتا ہے گردن آبِ خنجر پر
جو موجیں باڑھ پر آتی ہیں دریائے الفت کی

یہ وقت زخم نکلا خون اچھل کر جسم اطہر سے
کہ روشن ہو گئی مشعل شہستانِ محبت کی

مرے تن تن آسانی کو شہر طیبہ میں پہنچا
تن بے سر کو سرداری ملی ملکِ شہادت کی

حسن سنتی ہے پھر افراطِ تفریط اس سے کیوں کر ہو
ادب کے ساتھ رہتی ہے روشِ اربابِ سنت کی

دس محرم الحرام اور خاندانِ رسالت ﷺ پر ظلم و ستم کا آثار

روزِ عاشورہ کی صبح جا بھڑا آئی اور جمعے کی سحرِ محشرِ زمانہ دکھائی ہے۔ امامِ عرشِ
مقام (رضی اللہ عنہ)، خیمہ اطہر سے برآمد ہو کر اپنے بھتر ۷۲ ساتھیوں اور بیٹیس ۳۲
سواروں، چالیس ۴۰ پیادوں کا لشکر ترتیب دے رہے ہیں۔ داہنے بازو پر زہیر بن قین،
بائیں پر حبیب بن ماطر سردار بنائے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے، خندق کی لکڑیوں میں
آگ دے دی جائے کہ دشمن ادھر سے راہ نہ پائیں۔ اس انتظام کے بعد امام جنتِ مقام
تہیہ شہادت کے واسطے پاکی لینے تشریف لے گئے۔ عبدالرحمن بن عبد ربہ، یزید بن
حسین ہمدانی خیمے کے دروازے پر منتظر ہیں کہ بعد فراغِ امام خود بھی یہ سنت ادا کریں
۔ ابنِ حصین نے عبدالرحمن سے کچھ ہنسی کی بات کہی، وہ بولے ”یہ ہنسی کا کیا موقع ہے

؟“ کہا ”خدا گواہ ہے میری قوم بھر کو معلوم ہے کہ جوانی میں بھی کبھی میری ہنسی کی
عادت نہ تھی، اس وقت میں اس چیز کے سبب سے خوش ہو رہا ہوں جو ابھی ملا چاہتی ہے
۔“ تم اس لشکر کو دیکھتے ہو جو ہمارے مقابلہ کے لئے تلا کھڑا ہے، خدا کی قسم ہم میں اور
حوروں کی ملاقات میں اتنی ہی دیر باقی ہے کہ یہ تلواریں لے کر ہم پر جھک پڑیں۔“
امام جنتِ مقام باہر تشریف لائے اور ناقہ پر سوار ہو کر اتمامِ حجت کے لئے لشکرِ اشقیاء کی
طرف تشریف لے گئے قریب پہنچ کر فرمایا ”لوگو! میری بات غور سے سنو اور جلدی نہ
کرو اگر تم انصاف کرو سعادت پاؤ ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے
کر گزرو، میں مہلت نہیں چاہتا، میرا اللہ جس نے قرآن اتار اور جو نیکیوں کو دوست
رکھتا ہے، میرا کار ساز ہے۔“

امام کی یہ گواہان کی بیہوشی کے کانوں تک پہنچی بے اختیار ہو کر رونے لگیں امام
نے حضرت عباس (رضی اللہ عنہ) اور امام زین العابدین (رضی اللہ عنہ) کو خاموش کرنے
کے لئے کھینچ کر فرمایا ”خدا کی قسم انہیں بہت رونا ہے۔“ پھر اشقیاء کی طرف متوجہ
ہو کر فرمانے لگے ”ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو تو میں کون ہوں؟..... اپنے
گریبان میں منہ ڈالو، کیا میرا قتل تمہیں روا ہو سکتا ہے؟..... کیا میری بے حرمتی تم کو
حلال ہو سکتی ہے؟..... کیا میں تمہارے نبی ﷺ کا نواسہ نہیں؟..... کیا تم نے نہیں
سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا، تم دونوں جو انسان جنت کے
سردار ہو؟..... کیا اتنی بات تمہیں میری خون ریزی سے روکنے کے لئے کافی
نہیں؟.....“

شمر مردک نے کہا، ”ہم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو۔“ حبیب بن ماطر نے
فرمایا، ”اللہ عزوجل نے تیرے دل پر مہر کر دی تو کچھ نہیں جانتا۔“ پھر امام مظلوم نے

فرمایا، ”خدا کی قسم میرے سواروئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسہ باقی نہیں۔ بتاؤ تو میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا؟..... یا مال کو ٹایا کسی کو زخمی کیا؟..... آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ چاہتے ہو؟.....“ کوئی جواب نہ ہوا، تو نام لے کر فرمایا ”اے شیث بن دہبی! اے حجاز بن الجہر! اے قیس بن اشعث! اے زید بن حارث! کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے؟“ وہ خبیث صاف مکر گئے۔ فرمایا، ”ضرور لکھے۔“ پھر ارشاد ہوا ”اے لوگو! اگر تم مجھے ناپسند رکھتے ہو تو واپس جانے دو۔“ اس پر بھی کوئی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا ”میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس امر سے کہ مجھے سنگسار کرو اور پناہ مانگتا اس مغرور سے جو قیامت کے دن ایمان نہ لائے۔“ یہ فرما کر ناقہ شریف سے نیچے اتر آئے۔

زہیر بن قین ہتھیار لگائے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور کہنے لگے ”اے اہل کوفہ! عذاب الہی جلد آتا ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ نصیحت کرے، ہم تم ابھی دینی بھائی ہیں، جب تکوار اٹھے گی تم الگ گردہ ہو گے، ہم الگ۔ ہمیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی اولاد کے بارے میں آزمایا ہے کہ ہم تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ میں تمہیں امام حسین (رضی اللہ عنہ) کی مدد کے لئے بلاتا ہوں سرکش ابن سرکش! لکن زیاد کی اطاعت سے روکنا چاہتا ہوں، تم اس کے ظلم و ستم کے سوا کچھ نہ دیکھو گے۔“

کوفیوں نے کہا ”جب تک تمہیں اور تمہارے سردار کو قتل نہ کر لیں یا مطیع بنا کر لکن زیاد کے پاس نہ بھیج دیں ہم یہاں سے نہ ٹلیں گے۔“

زہیر نے فرمایا، ”خدا کی قسم! فاطمہ کے بیٹے سمیہ کے بیٹے سے زیادہ مستحقِ محبت و نصرت ہیں، اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو ان کے قتل کے بھی درپے نہ ہو۔“

اس پر شمر مردود نے ایک تیر مار کر کہا ”چپ! بہت دیر تک تو نے ہمارا

سر کھایا ہے۔“

زہیر نے فرمایا ”ادایزیوں پر موتنے والے گنوار کے بچے! میں تجھ سے بات نہیں کرتا، تو زرا جانور ہے، میرے خیال میں تجھے قرآن کی دو آیتیں بھی نہیں آتیں، تجھے قیامت کے دن دردناک عذاب اور رسوائی کا مزدور ہو۔“

شمر بولا ”کوئی گھڑی جاتی ہے کہ تُو اور تیرا سردار قتل کیا جاتا ہے۔“

فرمایا ”کیا مجھے کُ موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم ان کے قدموں پر مرنا تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جینے سے پسند ہے۔“ پھر بلند آواز سے کہنے لگے، ”اے لوگو! یہ بے ادب اجڈ فریب دیتا اور دین حق سے بے خبر رکھنا چاہتا ہے، جو لوگ اہل بیت یا ان کے ساتھیوں کو قتل کریں گے، خدا کی قسم! محمد ﷺ کی شفاعت انہیں ہرگز نہ پہنچے گی۔“ امام عالی مقام نے واپس بلایا۔

اب شعیب بن سعد نے اپنے ناپاک لشکر کو امام مظلوم کی طرف حرکت دی۔ حرنے لگا ”کہا“ تجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟“ کہا ”ہاں! لڑوں گا اور ایسی لڑائی لڑوں گا، جس کا کوئی درجہ سروں کا اڑنا اور ہاتھوں کا گرنا ہے۔“ کہا ”وہ تین باتیں جو انہوں نے پیش کی تھیں تجھے منظور نہیں؟“ کہا ”میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا۔“

حضرت حر کی امام عالی مقام سے معذرت

حر مجبوراً لشکر کے ساتھ امام کی طرف بڑھے مگر یوں کہ بدن کانپ رہا ہے اور پہلو میں دل پھڑکنے کی آواز بغل والے سن رہے ہیں، یہ حالت دیکھ کر ان کے ہم قوم نے کہا ”تمہارا یہ کام شبہ میں ڈالتا ہے، میں نے کسی لڑائی میں تمہاری یہ کیفیت نہ دیکھی تھی، مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تمام اہل کوفہ میں بہادر کون ہے؟ تو میں تمہارا ہی نام لیتا ہوں۔“ بولے ”میں سوچتا ہوں کہ ایک جانب جنت کے خوش رنگ

پھول کھلے ہیں اور ایک جانب جنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور میں اگر پرزے پرزے کر کے جلادیا جاؤں تو جنت چھوڑنا گوارا نہ کروں گا۔“ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایزی دی اور امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر عرض کی ”اللہ مجھے حضور پر قربان کرے، میں حضور کا وہی ساتھی ہوں جس نے حضور کو واپس جانے سے روکا، جس نے حضور کو حراست میں لیا، خدا کی قسم مجھے گمان نہ تھا کہ یہ بد بخت لوگ حضور کا ارشاد قبول نہ کریں گے اور یہاں تک نوبت پہنچائیں گے، میں اپنے جی میں کہتا تھا خیر بعض باتیں ان کی کسی کرلوں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری اطاعت سے نکل گیا اور انجام کار تو وہ حضور کا ارشاد کچھ نہ کچھ مان ہی لیں گے اور خدا کی قسم! مجھے یہ گمان ہو تا کہ یہ کچھ نہ مانیں گے تو مجھ سے اتنا بھی ہرگز واقع نہ ہوتا، اب میں تائب ہو کر حاضر آیا ہوں اور اپنی جان حضور پر قربان کرنی چاہتا ہوں، کیا میری توبہ حضور کے نزدیک قبول ہو جائے گی؟“ فرمایا ”ہاں! اللہ عزوجل توبہ قبول کرنے والا اور گناہ بخش دینے والا ہے۔“

مردہ سن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے اور فرمانے لگے کیا وہ باتیں جو امام نے پیش کی تھیں ”تمہیں منظور نہیں؟“ ”لن سعد نے کہا، ”ان کا ماننا میری قدرت سے باہر ہے۔“ فرمایا ”اے کو فیو! تمہاری مائیں بے اولاد ہوں..... تمہاری ماؤں کو تمہارا رونا نصیب ہو..... کیا تم نے امام کو دشمنوں کے ہاتھ دے دینے کے لئے بلایا تھا؟..... کیا تم نے وعدہ نہ کیا تھا کہ اپنی جانیں ان پر نثار کر دو گے؟..... اور اب تم ہی ان کے قتل پر آمادہ ہو؟ یہ بھی منظور نہیں کہ وہ اللہ کے کسی شہر میں چلے جائیں جہاں وہ اور ان کے بال بچے امان پائیں..... تم نے انہیں قیدی بے دست و پا بنا رکھا ہے..... فرات کا بہتا پانی جسے خدا کے دشمن پی رہے ہیں اور گاؤں کے کتے سڑک میں

لوٹ رہے ہیں..... حسین اور ان کے چچوں پر ہمد کیا گیا ہے..... پیاس کی تکلیف نے انہیں زمین سے لگا دیا ہے..... تم نے کیا ہر معاملہ کیا ذریعہ محمد ﷺ سے..... اگر تم توبہ کرو اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو اللہ تمہیں قیامت کے دن پیاسا رکھے۔“

مقابلے کا باقاعدہ آغاز

اس کے جواب میں ان خبیثوں نے حضرت حر پر پتھر پھینکنے شروع کئے، یہ واپس ہو کر امام کے آگے کھڑے ہو گئے، لشکر اشقیاء سے زیادہ کا غلام یسار اور لن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلہ کے لئے میدان طلب کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی سامنے آئے، دونوں بولے ہم تمہیں نہیں جانتے، زہیر بن قین یا حبیب بن مطہر یا ہریر بن خصر کو ہمارے مقابلے کے لئے بھیجو۔ حضرت عبداللہ نے یسار سے فرمایا ”اوبہ کار عورت کے بچے تو مجھ سے لڑے گا؟ تیری لڑائی کے لئے بڑے بڑے چائیں۔“ یہ فرما کر ایک ہاتھ مارا وہ قتل ہوا، سالم نے آپ پر وار کیا، مائیں ہاتھ سے روکا اٹھیاں اڑ گئیں، داہنے سے وار کیا، وہ بھی مارا گیا۔

یہ عبداللہ کوٹنے سے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انکی بی بی ام وہب ان کے ساتھ تھیں۔ وہ خیمے کی چوب لے کر جہاد کے لئے چلیں اور اپنے شوہر سے کہا ”میرے ماں باپ تیرے قربان! قال کر ان ستھرے، پاکیزہ نبی زادوں کے لئے۔“ کہا تم عورتوں میں جاؤ۔ نہ مانا اور کہا ”تمہارے ساتھ مردوں گی۔“ آخر حضرت امام نے آواز دی کہ ”اے بی بی! اللہ تجھ پر رحمت کرے، پلٹ آ کہ جہاد عورتوں پر فرض نہیں۔“ واپس آئیں۔ پھر ابن سعد کے مہمہ سے عمرو بن الحجاج اپنے سوار لے کر آگے بڑھا، امام کے ساتھیوں نے گھٹنوں کے بل جھک کر نیزے سامنے کئے، گھوڑے نیزوں کی سانوں پر نہ بڑھ سکے، پیچھے پلٹے تو ادھر سے تیر چلائے گئے۔ وہ کتنے ہی زخمی ہوئے

کتنے ہی مارے گئے۔

ایک مردک ابن حوزہ نے پوچھا ”کیا تم حسین ہو؟“ کسی نے جواب نہ دیا، تین بار پوچھا، لوگوں نے کہا، ”تیرا کیا کام ہے؟“ بولا ”اے حسین! تمہیں آگ کی بشارت ہو۔“ فرمایا ”تو جھوٹا ہے، میں اپنے مہربان رب کے پاس جاؤں گا۔“ پھر اس کا نام پوچھا۔ کہا ابن حوزہ۔ دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ حِزْهٖ اِلٰی النَّارِ اِلٰی اِسے آگ کی طرف سمیٹ۔ ”یہ سن کر مردود غضب ناک ہوا، حضور کی طرف گھوڑا چکایا، قدرتِ خدا کہ گھوڑا بھڑکا اور یہ پھسلا، ایک پاؤں رکاب میں الجھ کر رہ گیا، اب گھوڑا اڑا چلا آتا ہے، یہاں تک کہ اس مردود کی ران اور پنڈلی ٹوٹی، سر پتھروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا، آخر اسی حال میں واصلِ جہنم ہوا۔

مشروق بن وائل خضرمی، امام مظلوم کے سر مبارک لینے کی تمنا میں آیا تھا۔ ابن حوزہ مردود کا حال دیکھ کر کہنے لگا، خدا کی قسم میں تو اہل بیت سے کبھی نہ لڑوں گا، پھر یزید بن مقل، حضرت بریر سے کہنے لگا، ”خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟“ فرمایا ”اچھا کیا۔“ کہا ”تم نے جھوٹ کہا اور میں تم کو آج سے پہلے جھوٹا نہ جانتا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہ ہو۔“ فرمایا ”تو آؤ ہم تم مباہلہ کر لیں کہ اللہ جھوٹے پر لعنت کرے اور جھوٹا سچے کے ہاتھوں سے قتل ہو۔“ وہ راضی ہو گیا۔ مباہلہ کے بعد ابن مقل نے تلوار چھوڑی، خالی گئی، حضرت بریر نے وار کیا، خود کاٹا ہوا بھیجا چاٹ گیا۔ یہ دیکھ کر رضی بن مقد عبدی دوڑا اور حضرت بریر سے لپٹ گیا، کشتی ہونے لگی، حضرت بریر نے دے مارا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے، پیچھے سے کعب بن جابر ازدی نے نیزہ مارا کہ پشت میں غائب ہو گیا، نیزہ کھا کر رضی کے سینے سے اترے اور اس مردک کی ناک دانتوں سے کاٹ لی کعب نے تلوار ماری کہ شہید ہوئے، جب کعب پلٹا اس کی عورت

نے کہا ”میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی، تو نے فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے دشمن کو مدد دی اور عالموں کے سردار بریر کو شہید کیا۔“

پھر امام کی جانب سے عمر بن قزطہ انصاری نکلے اور سخت لڑائی کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت حر نے قتال شدید کیا۔ یزید بن سفیان ان کے سامنے آیا، انہوں نے اسے قتل فرمایا، نافع بن ہلال مرادی میدان میں آئے، مزاحم بن حرث ان کا مزاحم ہوا۔ مرادی با مراد نے اس نامرد و نامراد کو قتل کیا، یہ حالت دیکھ کر عمروالحجاج چلایا، ”اے لوگو تم جانتے ہو کن سے لڑ رہے ہو؟ تمہارے سامنے وہ بہادر لوگ ہیں جنہیں مرنے کا شوق ہے، ایک ایک ان سے میدان نہ کرو، وہ بہت کم ہیں، خدا کی قسم! تم سب مل کر پتھر مارو گے تو قتل کر لو گے۔“

ابن سعد نے یہ رائے پسند کر کے لوگوں کو تہما میدان لگانے سے روک دیا، پھر عمر بن الحجاج نے فرات کی طرف سے حملہ کیا۔ اس حملے میں مسلم بن عوجہ اسدی نے شہادت پائی۔ غزلیٹ گیا، ان میں ابھی رقی باقی تھی، حبیب بن مطر نے کہا، ”تمہیں جنت کا مزدہ ہو، تمہارا اگرنا مجھ پر شاق ہوا، میں بھی عنقریب تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وصیت کرو کہ اس پر عمل کروں۔“ مسلم نے امام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ”ان پر قربان ہو جانا۔“ حبیب نے کہا ایسا ہی ہو گا۔ پھر خبیث ابن سعد نے پانچ سو تیرا انداز ابن نمیر کے ساتھ جماعتِ امام پر بھیجے۔ اب تین دن کے پیاسوں پر تیروں کا مینہ برسا شروع ہو گیا، امام کے ساتھی گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو گئے اور یہ پیادہ ہونا اس مصلحت سے تھا کہ اس ناگہانی بلا سے کہ ایک ساتھ پانچ سو تیر چنگیوں سے نکل رہا ہے، گھبرا کر پاؤں نہ اکھڑ جائیں، مارنا مرنا جو کچھ ہوتا ہے یہیں ہو جائے۔ امام کو چھوڑ کر بھاگنے اور پیٹھ دکھانے کی راہ نہ رہی۔ حضرت حر سخت لڑائی لڑے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی

ان پانچ سونے ان تیس ساتھیوں پر کچھ قدرت نہ پائی۔

جب شقی ابن سعد نے یہ حال دیکھا کہ سامنے سے جانے کی طاقت نہیں، اس میدان کے داہنے بائیں کچھ مکان واقع تھے، ان میں لوگ بھیجے کہ جماعت امام پر داہنے بائیں سے بھی حملہ ہو سکے۔ امام کے تین چار ساتھی پہلے ہی بیٹھ رہے، جب کو داہنے مار لیا۔ ابن سعد نے جل کر کہا کہ ”مکانات میں آگ لگا دی جائے۔“ امام نے فرمایا، ”جلا لینے دو، جب آگ لگ جائے گی تو دھڑ سے حملہ کا اندیشہ نہ رہے گا۔“

شمر مردود حملہ کر کے خیمہ اطہر کے قریب پہنچا اور جنت والوں کا خیمہ پھونکنے کو جہنمی نے آگ مانگی۔ اس کے ساتھی حمید بن مسلم نے کہا کہ ”خیمے کو آگ لگا کر عورتوں بچوں کو قتل کرنا ہرگز مناسب نہیں۔“ اس دوزخی نے نہ مانا۔ شیث بن ربیع کوئی نے کہ اس ناپاک لشکر کے سرداروں میں سے تھا، اس باری کو آگ لگانے سے باز رکھا۔ اس عرصے میں حضرت زہیر بن قین دس صاحبوں کے ساتھ شمر مردود پر ایسی سختی سے حملہ آور ہوئے کہ ان بدعتوں کو بھاگتے اور پیٹھ دکھاتے ہی بن پڑی۔ اس حملے میں ابو عزمہ مارا گیا۔ دشمنوں نے جمع ہو کر ان گیارہ پر ہجوم کیا۔ ان میں سے جتنے مارے جاتے کثرت کی وجہ سے معلوم بھی نہ ہوتے اور ان کا ایک بھی شہید ہو جاتا تو سب پر ظاہر ہو جاتا۔ اسی عرصہ میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ حضرت ابو شامہ صمادہ نے امام سے عرض کی، ”میری جان حضور پر قربان میں دیکھتا ہوں کہ اب دشمن پاس آگئے، خدا کی قسم جب تک میں اپنی جان حضور پر نثار نہ کر لوں، حضور شہید نہیں ہوں گے، مگر آرزو یہ ہے کہ ظہر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ملوں۔“ امام نے فرمایا ”ہاں! یہ وقت اول ہے، ان سے کہو اس قدر مہلت دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔“ امام کا آرامت کہ یہ بات ان بے دینوں نے قبول کر لی۔

ابن نمیر مردک نے کہا ”یہ نماز قبول نہ ہوگی۔“ حضرت حبیب بن ماطر نے فرمایا، ”آل رسول کی نماز قبول نہ ہوگی اور اے گدھے تیری قبول ہوگی؟“ اس نے ان پر وار کیا، انہوں نے خالی دے کر تلوار ماری، گھوڑے پر پڑی، گھوڑا اگر اس کے ساتھ وہ مردود بھی زمین پر آیا، اس کے ہمراہی جلدی کر کے اسے اٹھالے گئے۔ پھر انہوں نے قتال شدید کیا۔ بنی تمیم سے بدیل بن صریم کو قتل فرمایا، دوسرے تمیمی نے ان کے نیزہ مارا، اٹھنا چاہتے تھے کہ ابن نمیر خبیث نے تلوار چھوڑی، شہید ہو گئے اور حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شہادت کا امام کو سخت صدمہ ہوا۔

اب حضرت حر اور زہیر بن قین نے یہ شروع کیا کہ ایک ان خبیثوں پر حملہ فرماتے، جب وہ اس ہریونگ میں گھر جاتے، دوسرے لڑ بھڑ کر چھٹا لاتے، جب یہ گھر کر غائب ہو جاتے، وہ پہلے حملہ کرتے اور چھلاتے۔ دیر تک یہی حالت رہی پھر پیادوں کا لشکر حضرت حر پر ٹوٹ پڑا اور انہیں شہید کیا۔

روضۃ الشہداء میں ہے جب حر زخمی ہو کر گرے امام کو آواز دی، حضرت بے قرار ہو کر تشریف لے گئے اور سخت جنگ فرما کر اٹھالائے، زمین پر لٹا دیا اور ان کا سر اپنے زانو پر رکھ کر پیشانی اور رخساروں کی گرد دامن سے پونچھنے لگے۔ حر نے آنکھ کھولی اور اپنا سر امام کے زانو پر پا کر مسکرائے اور عرض کی ”حضور! اب تو مجھ سے خوش ہوئے؟“ فرمایا ”ہم راضی ہیں، اللہ بھی تم سے راضی ہو۔“ حر نے یہ مژدہ جانفزاں سر امام پر نقد جان نثار کی اور بہشت بریں کی راہ لی۔

آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے
تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے

مٹائے قصہ خواں فرقت کی شب سو یہ کہانی ہے
تیرے زانو ہی کے تیکے پہ فیند مجھ کو آئی ہے

حک شہادت کے بعد سخت لڑائی شروع ہوئی۔ دشمن کٹتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، کثرت کی وجہ سے کچھ خیال نہ لاتے، یہاں تک کہ امام کے قریب پہنچ گئے اور نقشہ کاموں پر تیروں کا مینہ برسا شروع کر دیا، یہ حالت دیکھ کر حضرت حنفی نے امام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے لے لیا اور اپنے چہرے اور سینے کو امام کی سپرہٴ پاک کھڑے ہو گئے۔ دشمن کی طرف سے تیر پر تیر آرہے ہیں اور یہ کامل اطمینان اور پوری خوشی کے ساتھ زخم پر زخم کھا رہے ہیں۔ اس وقت اس شربِ محبت کے متوالے نے اپنے معشوق، اپنے دلربا حسین کو پیٹھ کے پیچھے لے کر جنگِ احد کا سماں یاد دلادیا ہے، وہاں بھی ایک عاشقِ جاہلِ اسلام کی لڑائی بھڑکانے پر سیدِ محبوب ﷺ کے سامنے دشمنوں کے حملوں کی سپرہٴ پاک کھڑا ہوا تھا، یہ سعد بن ابی وقاص تھے (رضی اللہ عنہ)، حضورِ مہد نور انہیں کے پیچھے قیام فرماتے اور دشمنوں کے دفع کرنے کو ترکش سے تیر عطا فرماتے جاتے اور ہر تیر پر ارشاد ہوتا "إِذَا مَعَدَّ بَابِي أَنْتَ وَأَهْلِي" تیر مار سعد! تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ "اللہ کی شان، جنگِ احد میں، حضرت سعد کی جاں نثاری کی وہ کیفیت کہ رسول اللہ ﷺ کی سپرہٴ پاک کھڑے گئے اور دشمنوں کو قریب نہ آنے دیا اور واقعہ کربلا میں ابنِ سعد کی زیاں کاری کی یہ حالت کہ دشمنوں کو رسول اللہ ﷺ کے پیٹھ کے مقابلہ پر لایا ہے۔ بزرگوار باپ کے تیر اسلام کے دشمنوں پر چل رہے تھے، تاہم جارجٹ کے تیر مسلمانوں کے سردار پر چھوٹ رہے ہیں۔ ع

ببین تفاوت رہ از کجاست تابکجا

﴿تو دیکھ تو اس راہ اور اس راہ میں کتنا فرق ہے۔﴾

غرض حضرت حنفی نے امام کے سامنے یہاں تک تیر کھائے کہ شہید ہو کر گر پڑے، رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت زہیر بن قین نے اس طوفانِ بے تمیزی کے روکنے

میں جان توڑ کوشش کی اور سخت لڑائی لڑ کر شہید ہو گئے۔ حضرت نافع بن ہلال نے تیروں پر اپنا نام کندہ کر کر زہر میں بھلایا تھا۔ ان سے بارہ شقی قتل کئے اور بے شمار زخمی کر ڈالے۔ دشمن ان پر بھی ہجوم کر آئے، دونوں بازو ٹوٹ جانے کے سبب سے مجبور ہو کر گرفتار ہو گئے۔ شمر خبیث انہیں ابنِ سعد کے پاس لے گیا۔ ہلال کے چاند سا چہرہ خون سے بھرا تھا اور وہ بھرا ہوا شیر کہہ رہا تھا، "میں نے تم میں سے بارہ گرائے اور بے گنتی گھائل کئے، اگر میرے ہاتھ نہ ٹوٹتے تو میں گرفتار نہ ہوتا۔" شمر نے ان پر تلوار کھینچی، فرمایا "تو مسلمان ہوتا، تو خدا کی قسم! ہمارا خون کر کے خدا سے ملنا پسند نہ کرتا، اس خدا کے لئے تعریف ہے جس نے ہماری موت بدترانِ خلق کے ہاتھ پر رکھی۔" شمر نے شہید کر دیا۔ پھر باقی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا امام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب ان میں امام کی حفاظت کرنے کی طاقت نہ رہی، شہید ہونے میں جلدی کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جیتے جی امام عرشِ مقام کو کوئی صدمہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ و عبدالرحمن پسرانِ عروہ غفاری اجازت لے کر آگے بڑھے اور لڑائی میں مشغول ہو کر شہید ہو گئے۔

سیف بن حارث اور مالک بن عبد کہ دونوں ایک ماں کے بیٹے اور باپ کی طرف سے چچا زاد تھے، حاضر خدمت ہو کر رونے لگے۔ امام نے فرمایا "کیوں روتے ہو؟ کچھ دیر ہی باقی ہے کہ اللہ تمہاری آنکھیں کھنڈی کرتا ہے۔" عرض کی "واللہ! ہم اپنے لئے نہیں روتے بلکہ حضور کے واسطے روتے ہیں کہ اب ہم میں حضور کی محافظت کی طاقت نہ رہی۔" فرمایا "اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔" بالآخر یہ دونوں بھی رخصت ہو کر بڑھے اور شہید ہو گئے۔

حظہ بن اسعد نے امام کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھیں اور کوئیوں

کو عذاب سے ڈرایا مگر وہاں ایسی کون سنتا تھا، یہ بھی سلام لے کر کے گئے اور داد و شجاعت دے کر شہید ہو گئے۔ شاذ بن شاکر رخصت پا کر بڑھے اور شہادت پا کر دار السلام پہنچے۔ حضرت عائشہ اجازت لے کر چلے اور مبارک زمانگان کی مشہور بہادری کے خوف سے کوئی سامنے نہ آیا۔ ابن سعد نے کہا، ”انہیں پتھروں سے مارو۔“ چاروں طرف سے پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے ان نامردوں کی یہ حرکت دیکھی، طیش میں بھر کر زرہ اتار خود پھینک، حملہ آور ہوئے، دم کے دم میں سب کو بھگادیا۔ دشمن پھر حواس جمع کر کے آئے اور انہیں بھی شہید کیا۔ یزید بن ابی زیاد کنڈی نے جو کوفہ کے لشکر میں تھے اور مار سے نکل کر نور میں آگئے تھے، دشمنوں پر تیر مارنے شروع کئے، ان کے ہر تیر پر امام نے دعا فرمائی ”اللہ اس کا تیر خطانہ ہو اور اسے جنت عطا فرما۔“ سو تیر مارے جن میں پانچ بھی خطانہ گئے، آخر کار شہید ہوئے۔ اس واقعہ میں سب سے پہلے انہوں نے شہادت پائی اور شہیدان کربلا کی ترتیب وار فہرست، انہیں کے نام سے شروع ہوئی ہے، عمر بن خالد مع سعد مولے وجہ بن حارث و مجمع بن عبید اللہ لڑتے لڑتے دشمنوں میں ڈوب گئے۔ اس وقت اشقیانے سخت حملہ کیا، حضرت عباس (رضی اللہ عنہ) حملہ فرما کر چھڑا لائے۔ زخموں سے پجور تھے اسی حال میں دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

رحمن رسالت ﷺ کے مسکتے پھولوں کی شہادت کی ابتداء

اب امام کے وفادار اور جاں نثار سپاہیوں میں چند رشتہ داروں کے سوا کوئی باقی نہ رہا، ان حضرات میں سب سے پہلے جو دشمنوں کے مقابلہ پر تشریف لائے امام کے صاحبزادے حضرت علی اکبر ہیں (رضی اللہ عنہ)۔ شیروں کے حملے مشہور ہیں، پھر یہ شیر تو محمدی کچھار کا شیر ہے۔ اسکے جھنجھلائے ہوئے حملہ سے خدا کی پناہ، دشمنوں کو

قہر الہی کا نمونہ دکھا دیا، جس نے سر اٹھایا، نچا دکھا دیا۔ صف شکن حملوں سے جدھر بڑھے، دشمن کائی کی طرح پھٹ گئے، دیر تک قتال کرتے اور قتل فرماتے رہے، پیاس اور ترقی پکڑ گئی، واپس تشریف لائے اور دم راست فرما کر پھر حملہ آور ہوئے اور دشمنوں کی جان پر وہی قیامت برپا کر دی۔ چند بار ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ مرہ بن معنہ عبدی شقی کا نیزہ لگا اور بدھتوں نے تلواروں پر رکھ لیا۔ جنت علیا میں آرام فرمایا۔ نوجوان بچے کی لاش پر امام نے فرمایا، ”بیٹے خدا تیرے شہید کرنے والے کو قتل کرے، تیرے بعد دنیا پر خاک ہے، یہ قوم اللہ (عزوجل) سے کتنی بے باک اور رسول (ﷺ) کی بے حرمتی پر کس قدر جری ہے۔“ پھر نعش مبارک اٹھا کر لے گئے اور خیمہ کے پاس رکھ لی پھر عبد اللہ بن مسلم لڑائی پر گئے اور شہید ہوئے۔

اب اعداء نے چار طرف سے نرغہ کیا۔ اس نرغے میں عون بن عبد اللہ بن حضرت جعفر بن ابی طالب اور عبد الرحمن و جعفر، پسران عقیل نے شہادتیں پائیں۔ پھر حضرت قاسم، حضرت امام حسن کے صاحبزادے حملہ آور ہوئے اور عمرو بن سعد بن عمرو کی تلوار کا کر زمین پر گرے، امام کو چچا کہہ کر آواز دی، امام شیر غضبناک کی طرح پیپے، اور عمرو مردود پر تلوار چھوڑی، اس نے روکی، ہاتھ کہنی سے اڑ گیا۔ وہ چلایا، کوفے کے سوار اس کی مدد کو دوڑے اور گردوغبار میں اسی کے ناپاک سینے پر کھوڑوں کی ناپیں پڑ گئیں۔ جب گرد چھٹی تو دیکھا، امام حضرت کی قاسم کی لاش پر فرما رہے ہیں، ”قاسم! تیرے قاتل رحمت الہی سے دور ہیں، خدا کی قسم تیرے چچا پر سخت شاق گزرا کہ ٹو پکارے اور وہ تیری فریاد کو نہ پہنچ سکے۔“ پھر انہیں بھی اپنے سینے پر اٹھا کر لے گئے اور حضرت علی اکبر کے برابر لٹا دیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے حضرت عباس اور ان کے بیٹوں بھائی اور امام کے دوسرے صاحبزادے حضرت ابو بکر اور سب

بھائی بھتیجے شہید ہو گئے۔ اللہ انہیں اپنی وسیع رحمتوں کے سائے میں جگہ دے اور ہمیں ان کی برکات سے بہرہ مند فرمائے۔

اب امام مظلوم تنہا رہ گئے، خیمے میں تشریف لا کر اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو (جو عوام میں علی امین مشہور ہیں)، گود میں اٹھا کر میدان میں لائے، ایک شقی نے تیر مارا کہ گود ہی میں ذبح ہو گئے، امام نے ان کا خون زمین پر گرایا اور دعا کی، الہی! ”اگر تو نے آسمانی مدد ہم سے روک لی ہے تو انجامِ خیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے۔“

پھول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھلا گئے
حسرت ان فتنوں پر جو بے کھلے مرجھا گئے

اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد والہ واصحابہ اجمعین

﴿امام عالی مقام شہید ہوتے ہیں﴾

حسن و عشق کے باہمی تعلقات سے جو آگاہ ہیں، جانتے ہیں کہ وصلِ دوست جسے چاہنے والے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، بغیر مصیبتیں اٹھاتے اور بلائیں جھیلے حاصل نہیں ہوتا۔

اے دل بہوس برسرِ کارے نرسی
تاغم نہ خورے بغم گسارے نرسی

تاسودہ نہ گردی چاھنا ورتہ سنگ
برگز بکف پائے نگارے نرسی
اے دل! تو اس محبوب کی بارگاہ میں اس وقت تک نہیں پہنچ پائے گا، جب تک تو تکلیف نہ اٹھائے، غمخوار تیرے پاس نہیں پہنچے گا۔ جب تک تو حناء کو پتھر سے رگڑے

گا نہیں، وہ محبوب کے ہاتھوں کو رنگین نہ کر پائے گی۔ ﴿

دل میں نشتر چھو کر توڑ دیتے ہیں اور کلیجے میں چھریاں مار کر چھوڑ دیتے اور پھر تاکید ہوتی ہے کہ اُف کی تو عاشقوں کے دفتر سے نام کاٹ دیا جائے گا، غرض پہلے ہر طرح اطمینان کر لیتے اور امتحان فرما لیتے ہیں، جب کہیں چلن سے ایک جھٹک دکھانے کی نوبت آتی ہے۔

خوبایاں دل و جاں بینوا مے خواہند
زخمے کہ زنند مرحبا مے خواہند

اے قوم! قوم! چشم بددور این قوم

خون می ریزند و خوں بہا می خواہند

﴿معتوق تو عاشقِ غریب کی جان کے طالب ہوتے ہیں، زخم لگاتے ہیں اور پھر خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں۔ اس قوم، اس قوم، اس قوم سے اللہ کی پناہ، یہ خون بہاتی ہے اور پھر قصاص بھی طلب کرتی ہے۔﴾

اور یہ امتحان کچھ حسینانِ زمانہ ہی کا دستور نہیں، حسن ازل کی دلکش تجلیوں اور دلچسپ جلوؤں کا بھی معمول ہے کہ فرمایا جاتا ہے ”وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ“ اور ضرور ہم تمہارا امتحان کریں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک سے، اور مال گھٹا کر اور جانوں اور پھلوں سے۔

﴿البقرہ ۱۵۵: پ ۲﴾

جب ان کڑیوں کو جھیل لیا جاتا اور ان تکلیفوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے تو پھر کیا پوچھنا؟ سراپردہٴ جمال تری ہوئی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا دیا جاتا اور مدت کے بے قرار دل کو راحت و آرام کا پتلا بنا دیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر تو میدانِ کربلا میں امام

مظلوم کو وطن سے چھڑا کر پردہ کی بنا کر لائے ہیں اور آج صبح سے ہمراہیوں اور رفیقوں
 بلکہ گود کے پالوں کو ایک ایک کر کے جدا کر لیا گیا ہے۔ کلیجے کے ٹکڑے خون میں
 نہائے، آنکھوں کے سامنے پڑے ہیں، ہری بھری پھلواڑی کے سہانے اور نازک
 بھول، پتی پتی ہو کر خاک میں ملے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں، پردہ ہوتی تو کیوں ہوتی؟ کہ
 ایک راہ دوست میں گھر لٹانے والے اسی دن مدینہ سے چلے تھے، جب تو ایک ایک
 کو بھیج کر قربان کر لیا اور جو اپنے پاؤں نہ جاسکتے تھے، ان کو ہاتھوں پر لے کر نذر کر آئے۔
 کہاں ہیں وہ ملائکہ جو حضرت انسان کی پیدائش پر چون و چرا کرتے تھے، اپنی جانمازوں
 اور تسبیح و تہلیل کے مصلوں سے اٹھ کر آج کربلا کے میدان کی سیر کریں اور ”ایچیٰ
 اعلم ما لا تعلمون“ کی شاندار تفصیل حیرت کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں، اس دل
 دکھانے والے معرکے میں امتحان ابھی کا مقصود تھا، مگر حسین مظلوم کا اصلی اوروں کا
 طفیلی، اگر ایسا نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ دشمنوں کے ہاتھوں سے جو صرف امام ہی کے خون
 کے پیاسے تھے، پہلے امام کو شہید کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر! اس وقت کس قیامت کا دردناک
 منظر آنکھوں کے سامنے ہے۔ امام مظلوم اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے
 ہیں..... یکسی کی حالت..... تنہائی کی کیفیت..... تین دن کے پیاسے..... مقدمہ جگہ
 پر سینکڑوں تیر کھائے..... ہزاروں دشمنوں کے مقابلہ پر جانے کا سامان فرما رہے ہیں
 اہل بیت کی صغیر سن صاحبزادیاں، دنیا میں جن کی نازبرداری کا آخری فیصلہ ان کی
 شہادت کے ساتھ ہونے والا ہے، بے چین ہو کر رو رہی ہیں..... بے کس سیدانیاں،
 یہاں جن کے عیش، جن کے آرام کا خاتمہ ان کی رخصت کے ساتھ خیر باد کہنے والا
 ہے، سخت بے چینی کے ساتھ اشکبار ہیں۔ اور بعض وہ مقدس صورتیں جن کو بے کسی
 کی بولتی ہوئی تصویر کناہر طریقے سے درست ہو سکتا ہے..... جن کا سیاہ خاک میں

ملنے والا اور جن کا ہر آسرا ان کے مقدس دم کے ساتھ ٹوٹنے والا ہے..... روتے روتے
 بے حال ہو گئی ہیں..... ان کے اڑے ہوئے رنگت والے چہرے پر سکوت اور خاموشی
 کے ساتھ مسلسل اور گاتار آنسوؤں کی روانی صورتِ حال حال دکھا دکھا کر عرض کر
 رہی ہے!

مے روی و گریہ مے آید مرا
 ساعتے بے نشیں کہ باران بگذرد

﴿جب تو جاتا ہے تو میری آنکھیں روتی ہیں، جب ایک گھڑی میرے پاس بیٹھتے ہو تو
 گویا کہ بارش برس رہی ہے۔﴾

اس وقت حضرت امام زین العابدین کے دل سے کوئی پوچھے کہ حضور کے
 ہاتھوں دل نے آج کیسے کیسے صدمے اٹھائے اور کیسی مصیبت جھیلنے کے سامان ہو رہے
 ہیں۔ ہماری پروا نہیں۔ چمن کے ساتھیوں کی جدائی، ساتھ کیلے ہوؤں کا فراق
 اور پیارے بھائیوں کے داغ نے دل کا کیا حال کر رکھا ہے؟ اب ضدیں پوری کرنے
 والا اور نازاٹھانے والے مریدان باپ کا سایہ بھی سر مبارک سے اٹھنے والا ہے اس پر طرہ
 یہ کہ ان مسیبتوں، ان ناقابلِ برداشت تکلیفوں میں کوئی بات پوچھنے والا نہیں۔

از پیش من آن رشک چمن میگردد
 چون روح روانیکہ زتن میگردد

حال عجبے روز و داعش دارم
 من از سر جان و اوزمن میگردد
 ﴿میرے سامنے میرا محبوب، جس پر باغ بھی رشک کرتا ہے، جب وہ روح جسم میں
 رشک کرتی ہے، اس الوداع کے وقت میرا بڑا عجیب حال ہے، میں اس کے لئے جان کی

بازی لگا رہا ہوں اور وہ میرے گرد گھوم رہا ہے۔ ﴿

ہائے! کوئی اس وقت کوئی اتنا بھی نہ کہ رکاب تھام کر سوار کرائے یا میدان تک ساتھ جائے۔ ہاں! کچھ بے کس چوں کی دردناک آوازیں اور بے بس عورتوں کی مایوسی بھری نگاہیں، جو ہر قدم پر امام کے ساتھ ہیں، امام مظلوم کا جو قدم آگے پڑتا ہے، ”یتیسی چوں“ اور ”بے کس“ عورتوں کے قریب ہو جاتی ہے۔ امام کے متعلقین، امام کی بہنیں جنہیں ابھی صبر کی تلقین فرمائی گئی تھی، اپنے زخمی کلیجوں پر صبر کی بھاری سل رکھے ہوئے سکوت کے عالم میں بیٹھی ہیں، مگر ان کے آنسوؤں کا غیر منقطع سلسلہ، ان کے بے کسی چھائے ہوئے چہروں کا اڑا ہوا رنگ، جگر گوشوں کی شہادت، امام کی رخصت، اپنی بے بسی، مگر بھر کی تباہی پر زبان حال سے کہہ رہا ہے۔

مجھ کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر

قافلہ سارا روانہ ہو گیا

﴿جگر گوشہ رسول ﷺ کی پرسوز شہادت﴾

بارغ جنت کے ہیں بہر مدح خوان لعل بیت

تم کو مرده مار کا اے دشمنان لعل بیت

کس زبان سے ہو میں عزو شان لعل بیت

مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان لعل بیت

ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے میں

آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان لعل بیت

مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لئے تعظیم دیں

ہے بلند اقبال تیرا دو زبان لعل بیت

ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں

قدروالے جانتے ہیں قدر شان لعل بیت

مصطفیٰ بائع خریدار اس کا اللہ مشتری

خوب چاندی کر رہا ہے کاروان لعل بیت

رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق

کربلا میں ہو رہا ہے امتحان لعل بیت

پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے

خون سے سینچا گیا ہے گلستان لعل بیت

حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار

خود دو لہا بنا ہے ہر جوان لعل بیت

ہو گئی تھنین عید دید تہ تیغ سے

اپنے روزے کھولتے ہیں صائمان لعل بیت

جو کادون ہے کہیں زیست کی طے کر کے آج

کھیتے ہیں جان پر شہر لوگان لعل بیت

اے شباب فصل گل! چل گئی کیسی ہوا

کٹ رہا لہلاتا بوستان لعل بیت

کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے؟

دن دھاتے لٹ رہا ہے کاروان لعل بیت

خٹک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جافرات

خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت

خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں

بے کسی لب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت

تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں

پہاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت

قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سوئپ کر
دورِ بے دارِ تال کو کاروانِ اہل بیت

فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے
حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانِ اہل بیت

وقتِ رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا ساگ
لوسلامِ آخری اے بیٹگانِ اہل بیت

لہرِ فوجِ دشمنوں میں اے فلک یوں ڈوب جائے
فاطمہ کا چاند مہرِ آسمانِ اہل بیت

کس مزے کی لذتیں ہیں آبِ میغِ یار میں
خاکِ دھوئیں میں لوٹتے ہیں تشنگانِ اہل بیت

باغِ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوبِ خدا
اے زہے قسمت تمہاری کشتگانِ اہل بیت

حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سرکھولے ہوئے
آج کیسا حشر ہے یارب میانِ اہل بیت

کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض اے بے کسی
آج کیسا ہے مریضِ نیم جانِ اہل بیت

گھر لٹاتا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے
جانِ عالم ہو قدا اے خاندانِ اہل بیت

سرِ شہیدانِ محبت کے ہیں نیزوں پر بلند
لورِ لونی کی خدانے قدروشانِ اہل بیت

دولت دیدارِ پائی پاک جانیں پچ کر

کربلا میں خوب ہی چمکی دکانِ اہل بیت

زخم کھانے کو تو آبِ تیغ پینے کو دیا
خوب دعوت کی بلا کردشمنانِ اہل بیت

اپنا سودا بچ کر بازارِ سونا کر گئے
کوئی بستی بسائی تاجرانِ اہل بیت

اہل بیتِ پاک سے گستاخیاں بے باکیاں
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ دشمنانِ اہل بیت

بے ادب گستاخ فرقتے کو سنا دے اے حسن
یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہل بیت

اے کوثر! اپنے ٹھنڈے اور خوشگوار پانی کی سبیل تیار رکھ کہ تین دن کے
پیارے تیرے کنارے جلوہ فرمائیں گے۔.....

اے طوئی! اپنے سائے کے دامن اور دراز کر، کربلا کی دھوپ کے لینے والے
تیرے نیچے آرام نہیں گئے۔.....

آج میدانِ کربلا میں جنتوں سے حوریں سنگار کئے، ٹھنڈے پانی کے پیالے
لئے حاضر ہیں..... آسمان سے ملائکہ کی لگاتار آمد نے سطح ہوا کو بالکل بھر دیا ہے اور پاک

روحوں نے بہشت کے مکانوں کو سونا کر دیا..... خود حضور پر نور ﷺ مدینہ طیبہ سے
اپنے لاڈلے حسین کی قتل گاہ تشریف لائے ہوئے ہیں..... ریشِ مبارک اور سرِ اطہر

کے بال گرد سے اٹے ہوئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بہہ رہا ہے..... دستِ
مبارک میں ایک شیشہ ہے، جس میں شہیدوں کا مقدس خون جمع فرمایا گیا..... اور اب

مقدس دل کے چین پیارے حسین کے خون بھرنے کی باری ہے۔

بچہ ناز رفتہ باشد ز جہان نیازمندے

کہ بوقتِ جان سپردن بسرش رسیدہ بلشی

اس کی نیاز مندی سے جہاں، کتنا ناز اٹھائے گا، کہ جب میری جان نکل رہی ہوگی اور تو میرے سر پر کھڑا ہوگا۔

غرض آج کربلا میں حسینی میلا لگا ہوا ہے..... حوروں سے کہو کہ اپنی خوشبودار چوٹیاں کھول کر کربلا کا میدان صاف کریں کہ تمہاری شہزادی، تمہاری آقائے نعمت فاطمہ زہرا کے لال کے شہید کرنے اور خاک پر لٹائے جانے کا وقت قریب آگیا ہے..... رضوان کو خبر دو کہ جنتوں کو بھیینی بھیینی خوشبوؤں سے بھرا کر دلکش آرائشوں سے آراستہ کر کے دلنہا کر رکھے کہ بزمِ شہادت کا دولہا بچتے خون کا سر بلند سے زخموں کے ہار گلے میں ڈالے عنقریب تشریف لائے والا ہے۔

سامعِ آہ و بکا کی بے قراری آگئی
سیدِ مظلوم کی رن میں سواری آگئی

ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید

اب امام بے کس و تنہا کی باری آگئی

امام نے شمر خبیث کو خیمہ اطہر کی طرف بڑھتے دیکھ کر فرمایا: "خراش ہو تمہارے لئے اگر دیں نہیں رکھتے اور قیامت سے نہیں ڈرتے تو شرافت سے نہ گزرو، میرے قتل میت سے جال سرکشوں کو روکو، دشمن ادھر سے باز رہے۔" اب چار طرف سے امام مظلوم پر جنہیں شوقِ شہادت ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا کر کے لایا ہے۔ نغمہ ہوا۔ امام داہنی طرف سے حملہ فرماتے تو دور تک سواروں اور پیادوں کا نشان نہ رہتا، بائیں جانب تشریف لے جاتے تو دشمنوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا۔

خدا کی قسم، وہ فوج اس طرح ان کے حملوں سے پریشان ہوتی جیسے جریوں کے گلہ پر شیر آپڑتا ہے، لڑائی نے طول کھینچا ہے، دشمنوں کے چمکے چھوٹے ہوئے ہیں، ناگاہ امام کا گھوڑا بھی کام آگیا، پیادہ ایسا قتال فرمایا کہ سواروں سے ممکن نہیں۔

تین دن کے پیاسے تھے ایک بد غصہ نے فرات کی طرف اشارہ کر کے کہا، "وہ دیکھئے کیسا چمک رہا ہے، مگر تم اس سے ایک لاندہ پاؤ گے یہاں تک کہ پیاسے ہی مارے جاؤ گے۔" فرمایا "اللہ! تجھ کو پیاسا ہی قتل کرے۔" فوراً پیاس میں مبتلا ہوا، پانی پیتا، پیاس نہ بجھتی یہاں تک کہ پیاسا ہی مر گیا۔ حملہ کرتے اور فرماتے، "کیا میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ ہاں ہاں، خدا کی قسم! میرے بعد کسی کو قتل نہ کرو گے، جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کی ناخوشی کا سبب ہو، خدا کی قسم! مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت سے مجھے عزت بخشے اور تم سے وہ بدلہ لے جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہو، خدا کی قسم! تم مجھے قتل کرو گے تو اللہ تم میں پھوٹ ڈالے گا اور تمہارے خون بہائے گا اور اس پر بھی راضی نہ ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے لئے دکھ دینے والا عذاب چند و چند بڑھائے گا۔"

جب شمر خبیث نے کام نکلنا نہ دیکھا، لشکر کو لٹکایا، "تمہاری مائیں تم کو پیٹیں کیا انتظار کر رہے ہو حسین کو قتل کرو۔" اب چار طرف سے ظلمت کے ابر اور تاریکی کے بادل فاطمہ کے چاند پر چھا گئے۔ زرعمین شریکِ تہمی نے بائیں شانہ مبارک پر تلوار ماری، امام تھک گئے ہیں.... زخموں سے چور ہیں.... ۳۳ زخم نیزے کے اور ۳۴ گھاؤ تلوار کے لگے ہیں.... تیروں کا شمار نہیں.... اٹھنا چاہتے ہیں اور مگر گر پڑتے ہیں.... اسی حالت میں سان بن انس غشی شقی ناری جہنمی نے نیزہ مارا کہ وہ عرش کا تارا زمین پر ٹوٹ کر گر پڑا.... سان مردود نے خولی بن یزید سے کہا، سر کاٹ لے۔ اس کا

ہاتھ کانپا۔ سنان ولد الشیطان بولا، ”تیرا ہاتھ بے کار ہوا“ اور خود گھوڑے سے اتر کر محمد رسول اللہ ﷺ کے جگر پارے، تین دن کے پیاسے کو ذبح کیا اور سر مبارک جدا کر لیا، شہادت جو دلہن بنی ہوئی سرخ جوڑا، جنتی خوشبوؤں میں بسائے اسی وقت کی منتظر بیٹھی تھی، گھوگٹ اٹھا کر بے تابانہ دوڑی اور اپنے دولہا حسین شہید کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئی..... فَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِ وَأَعْدَائِهِمُ الظَّالِمِينَ۔

اس پر بھی صبر نہ آیا، امام کا لباس اتار کر آپس میں بانٹ لیا۔ عداوت کی آگ ابھی بھی نہ بجھی، اہل بیت کے خیموں کو لوٹا، تمام مال اسباب اور محمد رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادیوں کا زیور اتار لیا، کسی ٹی ٹی کے کان میں ایک بالی بھی نہ چھوڑی۔

اللہ عزوجل کی ہزار، ہزار لعنتیں ان بے دینوں کی شقاوت پر، زیور درکنار اہل بیت کے سروں سے ڈوٹے تک..... اب بھی مردودوں کو چین نہ پڑا، ایک شقی تاری جہنمی پکارا ”کوئی ہے کہ حسین کے جسم کو گھوڑوں سے پا مال کرے؟“..... دس مردود گھوڑے کداتے دوڑے اور فاطمہ کی گود کے پالے، مستحی کے سینے پر کھیلنے والے، کے تن مبارک کو سموں سے روندنا، کہ سینہ و پشت بوزین کی تمام ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں۔..... فَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِ وَأَعْدَائِهِمُ الظَّالِمِينَ۔

﴿شہادت کے بعد کے واقعات﴾

کتے شمر خبیث نے چاہا کہ امام زین العابدین کو بھی شہید کرے، حمید بن مسلم بولا ”سبحان اللہ! کیا بچے بھی قتل کئے جائیں گے؟“..... ظالم باز رہا۔ پھر سر مبارک امام مظلوم و شہدائے مرحوم خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھیجے

جگئے، جب کوئے آئے مکان بند پایا۔ خولی سر مبارک گھر لے آیا اور اپنی عورت نوار سے کہا ”میں تیرے لئے وہ چیز لایا ہوں جو عمر بھر کو غنی کر دے۔“ اس نے پوچھا ”کیا ہے؟“ کہا ”حسین کا سر۔“ خولی ”خراہی ہو تیرے لئے، لوگ چاندی سونالے کر آتے ہیں اور تُو رسول اللہ ﷺ کے بیٹے کا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم! میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔“ یہ ٹی ٹی کہتی ہے کہ ”میں نے رات بھر دیکھا کہ ایک نور عظیم، سر مبارک سے آسمان تک بلند ہے اور سپید پرند سر اقدس پر قربان ہو رہے ہیں۔“

جب سر مبارک، ابن زیاد خبیث کے پاس لایا گیا، اس کے گھر کے درود یوار سے خون بہنے لگا، وہ شقی چھڑی سے دندان مبارک کو چھو کر بولا، ”میں نے ایسا خوہورت نہ دیکھا، دانت کیسے اچھے ہیں۔“ زید بن ارقم (رضی اللہ عنہ) تشریف رکھتے تھے، فرمایا ”اپنی چھڑی بٹا، میں نے مدتوں رسول اللہ ﷺ کو ان ہونٹوں کو چومتے اور پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“ یہ کہہ کر رونے لگے۔ وہ خبیث بولا ”تمہیں رونا نصیب ہوا، اگر سٹھانہ گئے عورتے تو میں گردن مار دیتا۔“ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس مردود کے درباریوں سے فرمایا ”تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا اور مر جانہ کے بچنے کو امیر بنایا، آج سے تم غلام ہو، خدا کی قسم! تمہارے اچھے اچھے قتل کئے جائیں گے اور جو بچ رہیں گے غلام بنائے جائیں گے۔ دور ہوں وہ جو ذلت، وعار پر راضی ہوں۔“ پھر فرمایا ”اے ابن زیاد! میں تجھ سے وہ حدیث بیان کروں گا جو تجھے غیظ و غضب کی آگ میں پھونک دے، میں نے حضور اقدس کو دیکھا ”ذہنی ران مبارک پر حسن کو بٹھایا اور بائیں پر حسین کو اور دست اقدس ان کے سروں پر رکھ کر دعا فرمائی۔ الہی میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کو سونپتا ہوں۔“ اے ابن زیاد! دیکھ نبی ﷺ کی امانت کے ساتھ تو نے کیا کیا؟“ ادھر ظالموں نے عابد بیمار کے گلے میں طوق ہاتھوں میں ہتھکڑیاں

تو انہیں بھی قتل کر دوں، خیر لڑکے کو چھوڑ دو کہ اپنے ناموس کے ساتھ رہے۔“

ۛ نورِ انور کی کرامات ۛ

ایک راہب نصرانی نے دیکھا تو پوچھا، بتایا، کہا ”تم برے لوگ ہو، کیا دس ہزار اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے۔“ دینا کے کتوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اسی رات پر رکھے دیکھتا رہا ایک نور بلند ہو تا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کائی، صبح اسلام لایا اور گر جا گھر جا کر اس کا مال و متاع چھوڑ کر اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔

جب یہ مظلوموں کا لٹا ہوا قافلہ، شہیدوں کی لاشوں پر گزرا کہ بے گور و کفن میدان میں پڑے ہیں، حضرت زینب بے تابانہ چلا اٹھیں، یا رسول اللہ! حضور پر ملائکہ آسمان کی درودیں، حضور! یہ ہیں حسین.... میدان میں لیٹے.... سر سے پاؤں تک خون میں لپٹے.... تمام بدن کے جوڑ کئے اور حضور کی بیٹیاں قیدی ہوئیں اور حضور کے بچے مقتول پڑے ہیں جن پر ہوا خاک اڑا کر ڈالتی ہے.....“

جب یہ مظلوم قافلہ، امن زیادہ نہاد کے پاس پہنچا، اس نے عابد مظلوم سے
مٹھ کی، مسکت جواب پانے کے بعد بولا ”خدا کی قسم! تم انہیں میں سے ہو۔“ پھر ایک
شخص سے کہا، دیکھ تو یہ بالغ ہیں اور پر مری بن معاذ احرری شتی نے۔ یہ مظلوم کو قریب
جا کر غور سے دیکھا، کہا ”ہاں جوان ہیں۔“ خبیث بولا، ”انہیں بھی قتل کر۔“ حضرت
زینب بے تاب ہو کر مظلوم بچے سے لپٹ گئیں اور فرمایا ”امن زیادہس کر! ایسی ہمارے
خون سے تو سیراب نہ ہوا؟ ہم میں سے تو نے کسے باقی چھوڑا ہے؟ میں تجھے خدا کا واسطہ
دیتی ہوں کہ اس بچے کو قتل کرے تو اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈال۔“

عابد مظلوم نے فرمایا ”اے ابن زیاد! ان بے کس عورتوں کا کون نگہبان رہے گا؟ دین و دیانت و حقوق رسالت تو برباد گئے، آخر تجھے ان سے کچھ قرابت بھی ہے، اسی کا خیال کر کے ان کے ساتھ کوئی خدا ترس بدو کر دینا، جو اسلامی پاس کے ساتھ انہیں مدینہ پہنچا آئے۔“ حضرت زینب کی یہ حالت دیکھ کر خبیثٹ بولا ”خون کی شرکت بھی کیا چیز ہے میں یقین کرتا ہوں کہ یہ بی بی چاہتی ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دوں

مزید واقعات

جب سر مبارک امام مظلوم کا، اس ظالم اظلم یزید پلید کے پاس پہنچا امید سے چھوٹنے لگا، نصرانی بادشاہ کا سفیر موجود تھا، حیران ہو کر بولا کہ ”ہمارے یہاں ایک جزیرے کے گر جاگھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا سم ہے، ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف حج کی طرح جاتے اور منتیں مانگتے ہیں اور اس کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے تم اپنے کعبہ کی، تم نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔“

ایک یہودی نے کہا، ”مجھ میں اور دلاؤد علیہ السلام میں سترپشت کا فاصلہ ہے (اسی بناء پر) یہود میری تعظیم کرتے ہیں اور (تمہارا حال یہ ہے کہ) تم نے خود اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا؟

پھر شام سے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کو روانہ کیا گیا، مدینہ میں پہنچنے کی تاریخ قیامت کا سامان اپنے ساتھ لائی۔ گھر گھر میں کھرام تھا، درود یوار سے دل رکھانے اور کلیجے میں گھاؤ ڈالنے والی مصیبت ٹپکی پڑتی ہے۔

بعد شہادت آسمان سے خون برسا۔ نصرہ ازدیہ کہتی ہیں کہ ”ہم صبح کو اٹھے تو تمام برتن خون سے بھرے پائے... آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دن کو ستارے نظر آئے... ملک شام میں جو پتھر اٹھاتے، اس کے نیچے تازہ خون پاتے۔“

ایک روایت میں ہے سات دن آسمان اس قدر تاریک رہا کہ دیواریں شہاب کی رنگی ہوئی معلوم ہوتیں.... ستاروں میں ظلم نظر آتا.... ایک ستارہ دوسرے سے ٹکراتا۔

ابو سعد فرماتے ہیں، ”دنیا بھر میں جو پتھر اٹھایا اس کے نیچے تازہ خون پایا.... آسمان سے خون برسا.... کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، مگر اس کا اثر نہ جانا تھا نہ گیا.... خراسان و شام و کوفہ میں گھروں اور دیواروں پر خون خون ہی تھا۔“

علماء فرماتے ہیں کہ ”یہ تیز سرخی جو شفق کے ساتھ دیکھی جاتی ہے، شہادت مبارک سے پہلے نہ تھی، چھ مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے پھر یہ سرخی نمودار ہوئی۔“

قتل حسین (رضی اللہ عنہ) میں شریک بدبختوں کا عبرت ناک انجام

ابو شیخ نے روایت کی ”کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ جس نے امام مظلوم کے قتل میں کچھ اعانت کی تھی کسی نہ کسی بلا میں ضرور مبتلا ہوا۔“ ایک بڑھے نے اپنے نفس ناپاک کی نسبت سے کہا کہ ”اسے تو کچھ نہ ہوا۔“ چراغ کی بتی سنبھالی، آگ نے اس شئی کو جالیا، آگ آگ چلاتا فرات میں کود پڑا، مگر وہ آگ نہ ٹھکی، یہاں تک کہ آگ میں پہنچا۔

منصور بن عمار نے روایت کی کہ ”امام کے قاتل ایسی پیاس میں مبتلا ہوئے کہ ایک ایک مشک چڑھا جاتے اور پیاس کم نہ ہوتی۔“

سدی کہتے ہیں کہ ”ایک شخص نے کربلا میں میری دعوت کی، لوگوں نے آپس میں ذکر کیا کہ ”جس جس نے حسین کے خون میں شرکت کی مری موت مرا۔“ میزبان نے اسے جھٹلایا اور کہا کہ ”وہ شخص (یعنی میں خود) بھی اسی لشکر میں تھا (مجھے تو کچھ بھی نہ ہوا)۔“ پچھلی رات (یعنی رات کے آخری پر) چراغ درست کرنے اٹھا، آگ نے جست کر کے اس کے بدن کو لیا، خدا کی قسم! میں نے دیکھا کہ اس کا بدن کوئلہ ہو گیا۔“

امام زہری فرماتے ہیں، ”ان میں کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مرا، کسی کا منہ کالا ہو گیا۔“

امام واقدی فرماتے ہیں، ”ایک بڑھا وقت شہادتِ امام موجود تھا، (لیکن قتل میں) شریک نہ ہوا، اندھا ہو گیا۔ سبب پوچھا گیا، کہا، ”اس نے مصطفیٰ ﷺ کو خواب میں دیکھا، آستینیں چڑھائے، دستِ اقدس میں تنگی تلوار لئے، سامنے دس قاتل ذبح کئے ہوئے پڑے ہیں۔ حضور نے اس بڑھے پر غضب فرمایا کہ ”تو نے موجود ہو کر اس گروہ کو بڑھایا؟“ اور خونِ امام کی ایک سلاخی آنکھوں میں لگادی، اٹھا تو اندھا تھا۔

سہل ابن الجوزی روایت کرتے ہیں، ”جس شخص نے سر مبارکِ امام مظلوم، اپنے گھوڑے سے لٹکایا تھا، چند روز کے بعد اس کا منہ کونکے سے زیادہ کالا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، ”تیرا چہرہ تو عرب بھر میں تروتازہ تھا یہ کیا ماجرا ہے؟“ کہا، ”جب سے وہ سر اٹھایا ہے، ہر رات دو شخص آتے اور مجھے بازو سے پکڑ کر بھڑکتی ہوئی آگ پر لے جا کر دکھادیتے ہیں۔ سر جھکتا ہے، آگ چرے کو مارتی ہے۔“ پھر نہایت برے حالوں مر گیا۔“

ایک بڑھے نے حضور پر نور ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ ”سامنے ایک پشت میں خون رکھا ہے اور لوگ پیش کئے جاتے ہیں، حضور ﷺ اس خون کا دھبہ لگا دیتے ہیں، جب اس کی باری آئی، اس نے عرض کی ”میں تو موجود نہ تھا۔“ فرمایا ”دل سے تو چاہتا تھا۔“ پھر انگشتِ مبارک سے اس کی طرف اشارہ کیا، صبح کو اندھا اٹھا۔

حاکم نے روایت کی کہ حضور پر نور ﷺ سے جبریل نے عرض کی، ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھ کو یاد کیا کہ بد لے ستر ہزار قتل کئے اور حسین کے بد لے ستر ہزار اور ستر ہزار قتل فرماؤں گا۔“

الحمد للہ! اللہ عزوجل نے ابن زیاد خبیث سے امام کا بدلہ لے لیا۔ جب وہ مردود مارا گیا، اس کا سر مع اس کے ساتھیوں کے سروں لا کر رکھا گیا۔ لوگوں کا ہجوم تھا، غل پڑ گیا ”آیا آیا۔“ رلوی کہتے ہیں، ”میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے پیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک سر تک پہنچا۔ ایک نتھنے میں گھس کر دوسرے نتھنے میں سے نکلا اور چلا گیا، پھر غل پڑا، پھر وہی سانپ آیا اور چلا گیا کئی بار ایسا ہی ہوا۔“

منصور کہتے ہیں، ”میں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا، اس کا منہ سُر کا منہ تھا، سبب پوچھا کہا، ”وہ مولیٰ علی (رضی اللہ عنہ) اور ان کی پاک اولاد پر لعنت کیا کرتا۔“ ایک رات حضور سید عالم ﷺ کو خواب میں دیکھا، امام حسن مجتبیٰ (رضی اللہ عنہ) نے اس خبیث کی شکایت کی، حضور علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی اور منہ پر تھوک دیا، چہرہ سُر کا ہو گیا۔“

وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَطْ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

امام حسن کو زہر کس نے دیا؟

اس بات کا درست و مدلل جواب جاننے کے لئے ”حلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی (قدس سرہ)“ کے تحریر کردہ درج ذیل کلمات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ”مورِ نصین نے زہر خورانی کی نسبت جعدہ بنت اشعث ابن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو امام عالی مقام (رضی اللہ عنہ) کی زوجہ بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ”یہ زہر خورانی باغوائے یزید ہوئی ہے اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا، اس طمع میں آکر اس نے حضرت امام (رضی اللہ عنہ) کو زہر دیا۔“ لیکن

اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب نہیں ہوئی اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام، اور ایسے عظیم الشان قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ روایت کے لئے کوئی سند نہیں ہے اور مؤرخین نے بغیر کسی معتبر ذریعے یا معتد حوالے کے لکھ دیا ہے۔

یہ خبر واقعات کے حوالے سے بھی ناقابل اطمینان معلوم ہوتی ہے۔ (کیونکہ) واقعات کی تحقیق خود واقعات کے زمانے میں جیسی ہو سکتی ہے، مشکل ہے کہ بعد کو ویسی تحقیق ہو، خاص کر کہ جب کہ واقعہ اتنا اہم ہو۔ مگر حیرت ہے کہ اہل بیت اطہار کے اس امام جلیل کا قتل؟ اس قاتل کی خبر غیر کو کیا ہوتی؟ خود حضرت امام حسین (رضی اللہ عنہ) کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہی تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے برادر معظم سے زہر دہندہ کا نام نام دریافت فرماتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام حسین (رضی اللہ عنہ) کو زہر دینے والے کا نام معلوم نہ تھا۔

اب جب کہ امام حسن (رضی اللہ عنہ) نے خود کسی قتل کرنے والے کا نام نہ لیا، تو بعدہ کو قاتل ہونے کے لئے معین کرنے والا کون ہے؟ امام حسین (رضی اللہ عنہ) کو یا امامین کے صاحبزادوں میں سے کسی صاحب کو اپنی آخر حیات تک جہد کی زہر خورانی کا کوئی ثبوت نہ پہنچا، نہ ہی ان میں سے کسی نے اس پر شرعی مواخذہ کیا۔

ایک اور پہلو اس واقعہ کا خاص طور پر قابل لحاظ ہے اور وہ یہ ہے کہ ”حضرت امام (رضی اللہ عنہ) کی بیوی کو غیر کے ساتھ سازباز کرنے کی شہنچ تہمت کے ساتھ متہم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بدترین تہم (یعنی طعنہ زنی) ہے۔ عجب نہیں کہ اس حکایت کی بنیاد خارجیوں کی افتراءات ہوں، جب کہ صحیح اور معتبر ذرائع سے یہ معلوم ہے کہ حضرت امام حسن (رضی اللہ عنہ) کثیر التزوج (یعنی بہت زیادہ شادی کرنے والے) تھے اور آپ نے

سو (۱۰۰) کے قریب نکاح کئے اور طلاقیں دیں۔ اکثر ایک دو شب ہی کے بعد طلاق دے دیتے تھے۔ حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بار بار اعلان فرماتے تھے کہ ”حضرت امام حسن کی عادت ہے کہ یہ طلاق دے دیا کرتے ہیں، کوئی اپنی لڑکی ان کے ساتھ نہ بیا ہے۔“

مگر مسلمان بیویاں اور ان کے والدین یہ تمنا کرتے تھے کہ (اس طرح) کثیر ہونے کا شرف ہی حاصل ہو جائے۔ اسی کا اثر تھا حضرت امام حسن (رضی اللہ عنہ) جن عورتوں کو طلاق دیا کرتے تھے وہ اپنی باقی زندگی حضرت امام کی محبت میں سید لیا نہ گزار دیتیں اور ان کی حیات کا لمحہ لمحہ حضرت امام کی یاد اور محبت میں گزرتا تھا۔ ایسی حالت میں یہ بات بہت بعید ہے کہ امام کی بیوی حضرت امام کے فیض صحبت کی قدر نہ کرے اور بیزید پلید کی طرف ایک طمع فاسد کی بناء پر امام جلیل کے قتل جیسے سخت جرم کا ارتکاب کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال۔ ﴿سوانح کربلا﴾

اسمائے لشکر امام مع اسماء اہلبیت

شہزادہ کونین کے لشکر میں صرف چالیس پیادے اور بیس سوار تھے جن کی فہرست درج ذیل ہیں۔

زہیر بن حسان محمدی	زہیر بن قیس بجلی	بدر بن معقل جعفی
عبداللہ بن عمرو کلبی	انس بن کاہد اسدی	حاج بن مروق مؤذن لشکر اسلام
بریر بن خثیر ہمدانی	حبیب بن مظاہر اسدی	سعود بن حجاج انصاری
وہب بن عبد کلبی	قیس بن ربیع انصاری	جمع بن عبداللہ عاندی
خالد بن عمرو کی	عبداللہ بن عروہ ابن خرق غفاری	عمار بن حسان مدنی
محمد بن حنظلہ حمیری	عبدالرحمن بن عروہ بن خرق غفاری	حسان بن حارث سلیمان امت
عمرو بن خالد صیداوی	حروہ باحر غلام آزاد ابو ذر غفاری	جندب بن حجر خولانی
عمرو بن عبداللہ صائدہ	شیث بن عبداللہ ہبشتی	یزید بن زیاد بن مظاہر کنزی
حماد بن انس محمدی	قاسط بن زہیر ثعلبی	طاہر غلام آزاد دین الحق خزاعی
وقاص بن مالک احمدی	کردوس بن زہیر ثعلبی	جہلہ بن علی شیبانی
شرح بن عبید کی	کنانہ بن عقیق انصاری	اسلم بن کثیر اعرج ازدی
مسلم بن عوسجہ اسدی	ضرغامہ بن مالک انصاری	زہیر بن سلیم ازدی
ہلال بن نافع بجلی	جویر بن مالک انصاری	قاسم بن حبیب ازدی
مرہ بن ابی مرہ غفاری	عمرو بن ضیفہ صنعی	عمر بن جندب حضرمی
قیس بن معیہ مدنی	یزید بن مثبت قیسی	ابو تمامہ انصاری
ہاشم بن عتبہ کی	عامر بن مسلم	عمرو بن عبد صامہدی
بشیر بن عمر حضرمی	صف بن مالک انصاری	حنظلہ بن اسعد شیبانی
نعیم بن عجلان انصاری	زہیر بن بشیر جعفی	عبداللہ بن عبداللہ کدن اوجی

اہلبیت مصطفیٰ

حضرت علی ابن ابی طالب	سعد غلام شیر خدا	عمار بن ابی سلام انصاری
حضرت زین العابدین بن امام شین	فیروز غلام امام حسین	عابس بن ابی حبیب شاکری
حضرت جعفر بن عقیل	حضرت عبداللہ بن عقیل	شوذب غلام آزاد
حضرت جعفر بن عقیل	حضرت عبدالرحمن بن عقیل	شاکری انصاری
حضرت محمد بن ابی - سعد	حضرت جعفر بن عقیل	شعیب بن حارث بن مرثع انصاری
حضرت عبداللہ بن حضرت مسلم	حضرت محمد بن ابی - سعد	مالک بن مرثع انصاری
حضرت محمد بن عبداللہ	حضرت محمد بن ابی - سعد	محمد بن انس انصاری
حضرت عون بن عبداللہ	حضرت محمد بن ابی - سعد	محمد بن انس انصاری
حضرت ابوبکر بن امام حسن	حضرت محمد بن ابی - سعد	محمد بن انس انصاری
حضرت عمر بن امام حسن	حضرت محمد بن ابی - سعد	محمد بن انس انصاری
حضرت عبداللہ امام حسن	حضرت محمد بن ابی - سعد	محمد بن انس انصاری
حضرت قاسم بن امام حسن	حضرت محمد بن ابی - سعد	محمد بن انس انصاری
حضرت محمد بن مرتضیٰ علی	حضرت محمد بن ابی - سعد	محمد بن انس انصاری
حضرت عثمان بن مرتضیٰ علی	حضرت محمد بن ابی - سعد	محمد بن انس انصاری
حضرت عبداللہ بن مرتضیٰ علی	حضرت محمد بن ابی - سعد	محمد بن انس انصاری
حضرت جعفر بن مرتضیٰ علی	حضرت محمد بن ابی - سعد	محمد بن انس انصاری
حضرت عباس بن مرتضیٰ علی	حضرت محمد بن ابی - سعد	محمد بن انس انصاری
حضرت علی ابن ابی طالب	حضرت محمد بن ابی - سعد	محمد بن انس انصاری

پیغام اعلیٰ حضرت

امام اہلسنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی مدظلہ العالی

پیارے بھائیو! تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہونی بھالی بھیل میں ہو
 بھیلے تمہارے چاروں طرف ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بیگانہں تمہیں فتنے میں
 ڈال دیں تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں ان سے بچو اور دور بھاگو دو باندی
 ہوئے رافضی ہوئے نیچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چنگیز الوی ہوئے، غرض کتنے
 ہی فتنے ہوئے اور ان سب سے نئے گانہ صی ہوئے جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر
 لے لیا یہ سب بھیلے ہیں تمہارے اہل خانہ کی ناک میں ہیں ان کے حلوں سے اپنا
 ایمان بچاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے غور میں حضور سے
 سچا پرورش ہوئے، ان سے ما بھیں، ان سے سچا بھیں، روشن
 ہوئے، ان سے ان کے روشن ہوئے، ان سے ان کے روشن ہوئے، ان سے ان کے روشن ہوئے
 کہتے ہیں یہ نور ہم سے ہے کہ ہمیں اس نور سے آفتاب ہو، روشن ہو، نور ہو
 ہے کہ اللہ اور مولا کی پکی صحبت میں ہے اللہ اور مولا کی خدمت اور اللہ کی
 نگاہ اور ان کے دشمنوں سے پکی عداوت ہم سے خدا اور رسول کی شان میں اور
 تو جینا پاؤ گے اور تمہارا یہاں دنیا کیوں ہے؟ اور ان سے جدا ہو جاؤ جس کو ہر گز
 رسالت میں ذرا بھی کسان و تھو چرہ و تمہارا کیسا ہی بڑا بڑا معظّم کیوں نہ ہو وہ اپنے
 اندر سے اسے دودھ سے کھنی کی طرح نکال کر پھیٹ دے۔

(وصایا شریف ص ۱۳۴ تا ۱۴۰ کا حسنین رضا)